

نفسِ مُطْمِنَةٌ

آیت اللہ شہید دستغیب

ناشر •
ادارہ احیاء تراث اسلامی پاکستان



Rs 50/-

مرکز ایجاد احیاء تراث اسلامی پاکستان
لیکوڈ میکلوزن



THE FOUNDATION FOR THE REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE

سید علی حسین	مرقدیت جو شیخی کو درج کیا	پاکستانی ایجاد احیاء تراث
شیخی حفظ کیں ہیں	حضرت نام من	ستیں کی تحریک ایک نظر
لماں	دہم صدر مدنی اور سکھ تعلیم	لماں، لارڈز
معجزہ احمد کمال	سرپروردشی میں اگر	پیدا رہے انسان
تو سی اخلاقیں مدد اقبال درود حداہیدا	ارک انعام کی نند مالی تعلیمات	سلسلہ امت امام جو میرے تھات
کافیں جلی سعادت اگر تو جس آگوں کی نار	جذب بیان	برنچات دنیا کے اکابر
(زیرِ مطلع کتب)	جذب ذہن	اللہ، امام اور سنتی ساکب اگر
حضرت نام ایک تحریک ہے	حضرت نام فیض	امداد اور تھاتے تھاتے
علی الہی	حضرت نام فیض	لی وہاں
بیتلی خدا ہمار	ضیافتہ جو دنہ میلہ مور	اللہ اور ایسا
قصص یادیں ایساں	سرین ہوشی ایساں و چون کے نکلنے کتاب	قریب و نزدیک
میڈ رسٹ	روشنی کیم	چنانکہ
شیوات	خوب سوت فلسفہ اوس	حضرت نام ایسا طبقہ
شاد و میل رائقب اسما	بیتلی افسوس ایسا کی بیہت کا جھما	شیخ
محمد محقق (اکٹھی فریض)	گھبڑا زاد اگر مولی پور سرور قری	حضرت بیوہ تحریک صدرا
	پیر ایسا کا جویں مدد	قہ
	ہمسایعات ایساں	عنصر
	ستیں ایساں کے نام حضرت علی کاظم	دینیات ایسا نہ سب بہ حق
		گیا بہت کوئی اسم

اسٹاکسٹ: فون: ۶۲۶۲۹۲۳
احمد آشزو بک یارنا اسٹاک فوجیل اڑپلائز
۰۷۱۸۔ فیڈرے بے ایریا۔ کوچھ

نفس مرتضیہ

مصنف

شہید استاد سید محمد سعید

مترجم محمد بن علی باوہاب

ناشر

ادارہ ایجاد تراث اسلامی کراچی پاکستان

فہرست مصاہین

صفو نمبر

۱۹

- مقدمہ شہید اساؤ سید محمد ہاشم وستغیب
روح ایک لطیفہ غبی ہے جو عالم امر سے عالم ماری
میں پھر پور پذیر ہوا ہے
روح کا تعلق جب مارہ کے ساتھ ہو جائے تو نفس بن جاتا ہے
نفس انسانی خدا کا کھلا دشمن بن جاتا ہے
نفس کی تحریکی حالت ہر حال میں برقرار رہتی ہے
الہام بھی نفس کے تحریک کی ایک اور نمائی ہے
نفس امادہ نفس لوا مہ ایک ہی نفس کی دو حالتیں ہیں
نفس امادہ اور نفس لوا مہ کا باہمی تعلق
یادِ خدا اور اطمینان نفس
صلاتِ الحنی اور مشیتِ الحنی پر یقین کامل ہی اصل ایمان اور توحید ہے
رسنا، الحنی کا طلبگار ہونا اور مرضی خداوندی کے آگے سرتسلیم خم کر دعا
اطمینان قلب کا باعث ہوتا ہے

نمبر شمارہ

نفس مطہرہ

شید محرب آیت اللہ دستیب

محمد بن علی باوباب

اوارہ احیائے تراث اسلامی کراچی (پاکستان)

جفری گرافس (نوں ۶۸۳۹۴۲۳)

سن طباعت بلارڈوم فرودی ۱۹۹۵ء

احمد گروپ آف سروسز

(پنجاب ایضاً مشیری ڈائیٹن)

ایک بڑا (....)

نام کتب

معنف

مترجم

ناشر

کلی گرافی

تیری و خلیم

تعداد

قیمت

لٹنے کا پتہ

احمد بک سیلز ایضاً مشیریز

۱۹۸۱ء، فیڈل بن ایریا کراچی (پاکستان)

فن نمبر ۶۸۳۹۴۲۳

باب اول

فہرست مظاہمین

مکمل نمبر	مظاہم نفس کے اثرات
۳۲	دیواریہ تاہر کا قصر
۳۳	ایمان ہی کمال مظاہمیت ہے
۳۴	یوم عاشورا، حضرت امام حسین کا سکون
۳۵	چونکہ خدا دیکھ رہا ہے اس لیے ہر کام آسان ہو جاتا

۹۹۰
۹۸۰
۹۷۰
۹۶۰
۹۵۰
۹۴۰
۹۳۰
۹۲۰
۹۱۰
۹۰۰
۸۹۰
۸۸۰
۸۷۰
۸۶۰
۸۵۰
۸۴۰
۸۳۰
۸۲۰
۸۱۰
۸۰۰
۷۹۰
۷۸۰
۷۷۰
۷۶۰
۷۵۰
۷۴۰
۷۳۰
۷۲۰
۷۱۰
۷۰۰
۶۹۰
۶۸۰
۶۷۰
۶۶۰
۶۵۰
۶۴۰
۶۳۰
۶۲۰
۶۱۰
۶۰۰
۵۹۰
۵۸۰
۵۷۰
۵۶۰
۵۵۰
۵۴۰
۵۳۰
۵۲۰
۵۱۰
۵۰۰
۴۹۰
۴۸۰
۴۷۰
۴۶۰
۴۵۰
۴۴۰
۴۳۰
۴۲۰
۴۱۰
۴۰۰
۳۹۰
۳۸۰
۳۷۰
۳۶۰
۳۵۰
۳۴۰
۳۳۰
۳۲۰
۳۱۰
۳۰۰
۲۹۰
۲۸۰
۲۷۰
۲۶۰
۲۵۰
۲۴۰
۲۳۰
۲۲۰
۲۱۰
۲۰۰
۱۹۰
۱۸۰
۱۷۰
۱۶۰
۱۵۰
۱۴۰
۱۳۰
۱۲۰
۱۱۰
۱۰۰
۹۰۰
۸۰۰
۷۰۰
۶۰۰
۵۰۰
۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰
۰۰۰

نفس مظہن کے کامل مصداق حضرت امام حسین میں
بشریت کے کمال کا آخری درجہ
نفس تو ایک ہی ہے نیکن وہ مختلف الحال ہو جاتا ہے
بندگی کے منصب سے بی پڑانا
نفس امارہ شتر سے ہمارا ہے
نفس تو ایک اڑو حاصل ہے
قنسا و قدر اور نفس امارہ
خدا حکیم و علیم بھی ہے اور مدبر عالم بھی
اللہ جو کچھ کرتا ہے اسی میں بخلانی ہے
صلحت خداوندی سے بے خبری ہی بے صبری کا سبب ہے
ایسی بے صبری جس میں شکایت یا اعتراض کا ہلو وہ عرام

ہے۔
نفس کی امارگی اور آئمنہ کی طرف لے جانے والے اعمال
ایک اندھے اور مظعون مریض کا قصہ جو ہر حال میں
صابر و شاکر تھا
بدن یعنی سالم اور دل بے چین
خدا چاہے تو تیرے اندر ہی ایک ناصح پیدا ہو جائے۔
نفس پر نیکی اور بدی اور ہر دو کا الہام ہو سکتا ہے

بائب دوم

بدن اور روح کا تعلق
آنکھیں اور کانِ محنت خداوندی کے اور آک کا ذریعہ ہیں
اعضاً نے جسم روح کی کار فرمائی کا وسیلہ ہیں
جسم کا سات اور قدرت انہی
روح کی مشیت اور جسم انسانی
نفسِ ناطق کی قدرت

روح تن ہٹا کی آدمیوں کے کامِ انجامِ دیتی ہے
خواسِ مادی ناقص ہیں

ہوا اور برق بھی مرئی نہیں
صلحول سے علٹ کا پتھر چلتا ہے

روح کی دوبارہ تخلیق
شہد ازندہ جاوید ہوتے ہیں

بقائے روح

عالم موجوداتِ خداہی کا تخلیق کر دہ ہے
انسان کے اور اکاتِ روح ہی کا کرشمہ ہیں

حافظِ بھی نفس کے تمجد ہی کی دلیل ہے
درکاتِ نفس میں باہم کوئی اختلاف نہیں

نفس کی وسعت اور اس کے بے شمار اور اکات
خوارزم شاہ کا نفسیاتی علاج

نفسیاتی علاج زیادہ موثر ہوتا ہے
محروم، کی سزا نے سوت اور نفسیاتی طریقہ

صفحہ نمبر

- | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۲ | نفسیاتی تلقینِ شفا بھی دے سکتی ہے اور یہ مار بھی کر سکتی ہے |
| ۹۳ | روح کی کار فرمائیوں میں جسم کے اندر رہنا ہونے والے
دوسرے افعال مانع نہیں ہوتے |
| ۹۴ | سانس پیٹنے کے لئے تبادل راستے ہمایا کرنے میں بھی حکمت
الہی پوشیدہ ہے |
| ۹۵ | موت کے وقت قدرتِ انہی اشکار ہوتی ہے |
| ۹۶ | موت کے وقت ناتوانی |
| ۹۷ | ہلول کا تبرستان جانا اور وزیر کو نصیحت کرنا |

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

باب سوم

نفس کے معارف اور سرفت الہی کی تطبیق
انسان اپنی ہست کو بھی کچھ سے قاصر ہے
آثار اور نشانیوں کے ذریعہ سرفت نفس حاصل ہو سکتی ہے
جان تو وہ ہے جو ہماری ذات اور جسم سے جدا نہیں
نفس بحد مکان کا محاج نہیں
عقول ہے جان تو مخلوق یا مرد ہی ہوتا ہے
نفس کی حقیقت سب سے پوشیدہ ہے
هر انسان کے لئے پورا کردہ ارش ایک دستخوان کی ماتحت ہے
روح کی وحدت خدا نے عرب جل کی وحدت پر وال ہے
روح اپنے سیکڑوں و خلاف کے باوجود ایک ہی ہے
انسان کے جسم میں روح کے کام
موت بھی روح کی کار کردگی کی نشانی ہے
بدن کے واسطے کے بغیر روح کے افعال
خواب کے دو دران روح کے کام
احکام روح کے عمل کی ایک اور مثال ہے
رویائے صادق روح کی قدرت کا گیب تھوڑا ہیں
ناور شاہ کے غیب خواب
شترشیر چھین لی گئی
نعمت اور حکومت ہر شخص کے اعمال کے ساتھ وابست ہے
مال و دولت اور اقتدار و حکومت اقتدار و آزادی کا ذریعہ ہیں
حضرت علی خواب میں ایک نامی کا سرت سن سے جدا کر دیتے ہیں

صفحہ نمبر

- | | |
|----|----------------------------------------------------|
| ۸۵ | بے شعور بادہ کو اور اک مجرم سے کیا واسطہ ۹ |
| ۸۶ | اپنی خودی اور ذات کو پانے کی فکر کرو |
| ۸۷ | فرشتہ صفت بننے کی کوشش کرو |
| ۸۸ | سیادا آتشیں بیاس نہ بنا دیا جائے |
| ۸۹ | دنیوی مصروفیات کہیں یا وحدا سے جہیں غافل نہ کر دیں |

باب چہارم

نفس مطہرہ خدا کو مجبوب ہے
آج کی زحمت کل کی رحمت
جو ارآل محمد اور بہشت ناص
بندہ کو چاہے کہ غرور کرنا چھوڑ دے اور بندگی کی کوشش
زیادہ کرے

صفحہ نمبر

- | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ۱۰۳ | نماز بدترین غفلت کا اعلان ہے |
| ۱۰۴ | نفس لو امد خود سرزنش کرتا ہے |
| ۱۰۵ | نفس کی لو اگی قلب کے اطمینان کا پیش خس ہے |
| ۱۰۶ | غفلت کیوں غلبہ پالیتی ہے |
| ۸۹ | |
| ۹۰ | |
| ۹۱ | |
| ۹۲ | انسانوں کے تین گروہ |
| ۹۳ | نفس امارہ خدا کا سکر ہوتا ہے |
| ۹۴ | مادی اور دنیوی زندگی کی فکر |
| ۹۵ | تم دیکھتے اور سنتے ہو کیا جہاڑا خداویحستا اور سنا نہیں ہے |
| ۹۶ | نفس امارہ کو بندگی سے کوئی علاقہ نہیں |
| ۹۷ | نصرت کا گرگٹا بت ہوتی ہے |
| ۹۸ | اس غلام کا قصد جس نے حضرت سجاد کے سنجے کو ہلاک کر دیا |
| ۹۹ | غلام کو حبیب کر کے آزاد کر دیا |
| ۱۰۰ | قصہ بندگی کی حدود سے خارج نہ رہتا ہے |
| ۱۰۱ | جب تک طہایت قلب حاصل ہے ہو تو بذبب سے چھکارا
نہیں |
| ۱۰۲ | امام صادق کا کنزیر ترس کھانا اور کبیدہ خاطر ہوتا |
| ۱۰۳ | اللہ رب العزت کے سامنے اہمائی گزوں انساز کا اخبار کرنا
چاہئے |
| ۱۰۴ | امام موسوی کے نفس مطہرہ کی مشائل |
| ۱۰۵ | تمہارے لیے جو آگ ہیک رہی ہے اسے بمحابنے کی فکر کرو |

باب پنجم

۱۲

صلحگہ نمبر

- رضاۓ الٰی کے حصول کا ذریعہ اطمینان قلب ہے
ند پر بھروسہ اضطراب کا قلع، قب کرتا ہے
آن کے دور میں بنی نوع انسان کے سارے مسائب کفر کا
تیجہ ہیں
میں، جس کی رستگاریاً چھوڑ دے
کاشات خدا کی ملکیت اور سارے موجودات اس کے بندے
ہیں
مال دو دولت کسی کام نہیں آتے
ایک ملکہ کا حال جس نے بھوک کے مارے جان دے دی
حجاج بن یوسف کا سردی میں غصہ کر مرتا
اطمینان نفس کے لیے توحید پر سنبھولی سے قائم رہنا ضروری
ہے
خود کو مالک تصور کرنا چاہلت ہے
ماں باپ بھی فی الحقيقة اولاد کے مالک نہیں
مری کی حقیقت کہ اولاد پر حق اطاعت جلائیں
حقیقی اور برہمی گاری پر قسل کے ساتھ قائم رہنا چاہیے
نفس ملکتہ خوف اور غم و انداد سے بچارہ تا ہے
اویا، اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف دامن
گیر نہیں، ہوتا
حضور اکرم کا اپنے فرزند ابراہیم کی موت پر گریے گناہ، ہوتا
رحمت الٰی کی طلب نہ کہ نفسانیت!
امام حسین کے آفری بارود نے اور نوح کرنے کی حقیقت

۱۲

باب ششم

- ارواح عالیہ کے ساتھ اتصال
زیارت امین اللہ تہاہت اہم بھی ہے اور جاسٹ بھی
زیارت امین اللہ کی تفصیل
اویں شرط قلب کا اطمینان ہے
دنیوی اسباب پر بھروسہ اضطراب کی اصل وجہ ہے
مال اور اولاد پر بھروسہ حقیقی کفر کی علامت ہے
خود کشی بھی نفس کی بے اطمینانی اور بے چینی کا اعتماد ہے
ولی اللہ کی قبر رہنمی کراطمینان قلب کی دعا مانگنا
میرے مولا کے خزانے دوست سے بھرے ہوئے ہیں اور کبھی
خالی نہیں، ہوتے
خداؤ اولاد کا بھی ہوتا ہے
سب کا پالنے والا ہدایہ
کل بیک زندہ رہو گے تو کل بھی رزق دینے والا ہدی ہے
ایک موحد موسیٰ کا کنویں میں گرنا اور اعداء بھی سے اسکا سچ
سلام باہر تک آتا
اویا، اللہ کوئی خوف دا سمجھی ہوتا ہے اور نہ وہ عُنکیں
ہوتے ہیں
حسین اور ق شب اطمینان قلب کے کامل ہونے ہیں
شید توہباز کی مانند مسیحو ہوتے ہیں
خدا جو کچھ جاہتا ہے اس کو جو شی قبول کرنا ہی رضاہ تسلیم ہے

باب ہفت

لپتے نفس کی خواہشات سے باز آجادا اور خدا کی طرف سے جو
مل جائے اس پر قناعت کرو
انسان میں اکثریت نفس امارہ کے حامل لوگوں کی ہے
مکا کیا ہوئی تباشا
جب کوئی طبعاً بد ہو تو بدی ہی کی طرف مائل رہتا ہے
گناہ کے بعد نفس برائی سے بے ذار ہو جائے تو وہی نفس
لواسہ ہے

اس طرح کا عمل ایمان ہی کا حلہ ہے
نفس ملمنت سے گناہ سرزد نہیں ہوتا
نفس لوامہ خضوع دخشوخ اور صبر سے کام لیتا ہے
ایک صحرائشین بڑھا کا لپٹے بیٹھے کی دفاتر پر صبر و تحمل کا
ظاہرہ کرنا

نفس امارہ کی بے صبری
نفس ملمنت کسی حال میں بھی اپنی عبودت اور مقام بندگی
کو فراوش نہیں کرتا

لپتے زیر پر درش یا ماتحت لوگوں پر برتری حاصلنا

شہنشاہ صبغہ نجاشی کا خشوخ و خضوع
نفس ملمنت کے حامل ہو کچھ مانگتے ہیں خدا ہی سے مانگتے ہیں
دلی صبرت اور روحانی بحث

نفس ملمن ہو تو ملک المرت بھی روح قبض کرتے وقت
بھی آیے شریفہ پر صاحب ہے

صلوٰت

۱۳۴

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

- ۱۵۶ ہمارے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔
- ۱۵۷ مومن کی موت بھی خوشی خوشی واقع ہوتی ہے۔
- ۱۵۸ لوامگی پر سلسل قائم رہنے سے نفسِ ملمنت کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔
- ۱۵۸ . حقیقی معنوں میں توبہ واستغفار ہی ذریعہ نجات ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض ماضر

اس کتاب کے حوالے سے جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسے بھلے یعنی اوائل ۱۹۹۱ میں زیور طبع سے آئا سے ہو چکا تھا۔ کتاب ہذا کا ترجمہ میرے ہمراں اور مخلص جاحب محمد بن علی باوہاب نے سمحولی ہی تاخیر کے ساتھ کمکل کر لیا تھا کچھ میری ہی تفسیر ہے جو آمنت اللہ و سنتیب جسے جلیل القدر عالم کی منفرد اور نایاب تصنیف اس قدر تاخیر سے پیش کر رہا ہوں۔

کتاب میں عربی (آیات قرآنی) اکابر حداست فصل ہے اور بھی میری راہ میں مانع تھا راستے کی اس مشکل میں میرا ساتھ میرے عزیز و بزرگوں جاحب مولانا سید عطا محمد عابدی صاحب نے دیا اور نہ صرف یہ کہ بار بار تفسیح کی زحمات برداشت کیں بلکہ اہمیت مضمون کے پیش نظر کامل نظر ثانی بھی کی۔

اپنی کوئی کا ازالہ اس طرح کر رہا ہوں کہ اس کتاب کی طباعت کے ساتھ شہید اس تو مطہری کی مزکراتہ الادا تصنیف۔ حق و باطل۔ ذاکر محمود حکیمی کی منفرد تصنیف۔ قصص الحیوان فی القرآن۔ پچوں کے لئے۔ مہتاب کا سفر۔ اور روہا بستی (جو دراصل ہر مسلمان خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ کا فریضہ ہے) کے موضوع پر ایک کتاب۔ دہائیت علماء کے اہل سنت کی نظر میں۔ بھی پیش کی جا رہی ہے

احلات چاہوں گا اور آپ کی آراء کا منتظر ہوں گا۔

شہنشاہ جعفری ایڈوکیٹ
نااظم ادارہ احیائے تراث اسلامی
کراچی پاکستان

روح ایک لطیفہ غبی ہے جو عالم امر سے عالم مادی میں ظہور پذیر ہوا ہے

خداوند قدوس خالق کون و مکان روح کو جو منز عالم خلق سے بیگن د نا آشنا تھی اس عالم مادی میں لے آیا اور جب تک وہ تجربی حالت میں تھی تو خود خدا نے ذوالجلال کے حظ و امان میں رہی اور مشیت الہی نے جب چاہا اس کو ظاہر فرمایا۔ گویا روح کا تعلق اندھہ جل شاد کے عالم امری ہے۔

وَيَسْلُوْكَ مِنِ الرُّؤْمِ فَلِلرُؤْمِ مِنْ أَهْمِ تَبَعِيدٍ

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۵)

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمہ

ہمارے خامی بندوں میں داخل ہو جا
میں من کی صوت بھی خوش خوشی واقع ہوتی ہے
وہیکوہ سکھل قائم ہنے سے نفس ملنے کا حصول آسان
ہو جاتا ہے
حقیقی سخون میں توبہ دل استخارہ ہی ذریعہ نجات ہے

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

جس کی حقیقت کا علم ہم خاکیوں کی دسترس سے باہر ہے جیسا کہ ارشاد رب الحزت ہے کہ اسکے بارے میں ہم بہت تمودا علم عطا ہوا ہے۔

وَمَا أَنْبَثْنَا مِنَ الْقِيمِ إِلَّا فِي الْأَفْلَانِ

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۵)

یعنی جس حد تک اس کے آثار و لوازم ہمارے نفس ماطلاق پر حادی ہیں اور جو ہمارے بدن و مادہ کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

روح کا تعلق جب مادہ کے ساتھ ہو جائے تو نفس بن جاتا ہے

جب روح اپنی مجرد حالت سے نکل کر ہمارے بدن کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اس عالم طبعی و مادی کے نفس میں مقید ہو جائے تو اصطلاحاً اس حالت کو نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ روح کو انسانی بدن کے ساتھ تعلق سے بچتے عالم ارواح میں نہ تو خواہشات و شہوات اور نہ مادی احتیاجات سے سروکار ہوتا ہے اور نہ حکومت و شہرت یا مال و دولت کی طمع ہوتی ہے لیکن جوں ہی بدن کے ساتھ اس کا انسلاف عمل میں آتا ہے، اس میں خود فراموشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح اتنا نئے طبیعت سے بجبور ہو کر عالم مادی کی آلوگیوں سے مبراپاک صاف نہیں رہ سکتی اور وہ جو اس وقت تک مادی احتیاجات میں ملوث نہیں تھی، طبیعی جسم کے ساتھ تعلق پیدا ہوتے ہی اس میں خواہشات و احتیاجات جنم لینے لگتی ہیں۔

نفس انسانی خدا کا کھلاو شمن بن جاتا ہے

السان کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ اس میں بحدائق اور اکات کی ملاجیت پیدا ہونے لگی ہے جس کی ابعاد، سماں، بصری اور لمسی حیات سے

ہوتی ہے جو معلومات کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں پھر اس کے نتیجہ میں خواہشات انسانی و شہوانی کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ وہ چونکہ حقیقت کے علم سے بیگانہ و ماؤشا ہوتا ہے اس لئے اپنے جہل کے نتیجہ میں مبدداً اصلی سے دور ہونے لگتا ہے اور غیر خدا کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کر دتا ہے۔ گویا روح مجرد جو ہر طرح کی مادی آلوگی سے پاک ہوتی ہے، انسان کے بالغ المعر ہوتے اور ہوش سمجھلتے ہی، اس دنیا کی رنگینیوں میں پستا ہو کر اپنے عالم کا کھلاو شمن بن جاتا ہے۔

كَلَّا لِإِنْسَانٍ مِّنْ تَطْهِيفِنَا، هُوَ خَيْرٌ مِّنْ يُخْيَى

(سورہ الحلق آیت ۳۲)

یعنی جس کی تخلیق تو منی کی ایک حقیر بوند سے ہوتی ہے لیکن اب وہ خصم مبین بن کر خدا کی محبت اور اس کی رضا کا طالب ہونے کے بجائے جب دنیا اور جاہ طلبی میں مبتا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ قانون خداوندی یعنی شریعت سے روگردانی اور اس کی مقررہ حدود سے تجاوز کا مرٹکب ہونے لگتا ہے۔

نفس کی تحریدی حالت ہر حال میں برقرار ہتی ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ روح مادی دنیا اور بدن کے ساتھ تعلق قائم کر لینے کے بعد بھی اپنی تحریدی حالت برقرار رکھتی ہے۔ یوں تو اس کے ثبوت میں بے شمار دلائل موجود ہیں لیکن سب سے روشن دلیل تو اسکی وہ صفات ہیں کہ مجرد حالت کے بغیر ان میں سے ایک کی بھی وہ حامل نہیں ہو سکتی۔ اب علم ہی کویجھے، اس میں تو کوئی شبہ کی گنجائش نہیں کہ علم ایک ایسی صفت ہے جو مادی نہیں۔ وہ ابعاد ملائش یعنی طول، عرض اور جنم کا پابند نہیں۔ سوال یہ ہے

وَجَعَلَ لَهُمُ السَّمْعَ وَالْأَيْمَارَ وَالْأَنْفَةَ لِتَلْعَمُ نَسْخَرُونَ ۝

(سورہ انخل آیت ۸)

کیا یہ حرمت کا مقام ہنس کہ اللہ تعالیٰ علم کو جو خود بھی مجرد ہے، مجرد مقام پر بھپنے کے لئے مادی اسیاب ہمیا فرماتا ہے۔ جب ان حواس کے ذریعہ انسان کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ دیگر علوم کی تحصیل پر بھی قادر ہو جاتا ہے جن میں وہ علوم بھی شامل ہیں جنہیں۔ محققوات ثانویہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور مادہ یا مادی اشیاء سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوا۔

الہام بھی نفس کے تجدی کی ایک اور نشانی ہے

نفس کے مجرد ہونے کی نشانیوں میں سے ایک الہام خداوندی بھی ہے جس کے ذریعہ مستقبل کی بعض باتوں اور در دراز کے پیش آنے والے واقعات و حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہست سے انسانوں کو بذریعہ الہام ایسی باتوں کی جانب متوجہ فرماتا ہے جن میں خیر یا شر کا حل ہو جیسا کہ سورہ شمس میں ارشاد ہوا ہے۔

وَنُخِيْسْ وَمَا سَوَّا هُنَّا نَالْحَمَانْ جُوْهَرُهَا وَتَقْوَاهَا ۝

(سورہ الشس آیات ۸، ۹)

اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ہی انسانوں کو خیر و شر اور فور و تقویٰ کے بارے میں بذریعہ الہام علم عطا فرمایا ہے۔ البتہ اصطلاح خاص میں۔ نفس ملکہ۔ کا اطلاق بالخصوص ان نفوذی پر ہوتا ہے جو مکمل پاکیزگاری اور پرمیزگاری پر عمل ہیرا ہو کر مادی آلائشوں اور دمیاوی آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔

کہ ایک چیز جو مجرد ہو وہ کسی مادی شے میں گھر کر سکتی ہے۔ لہذا بد بھی طور پر عام کا محل انسان کا نفس ماطقہ ہی ہے نہ کہ اس کا بدن۔ گویا نفس بہر حال مجرد حالت ہی میں موجود رہتا ہے تب یہ وہ دوسری مجرد شے یعنی علم کو جلد رہتا ہے کیونکہ مجرد شے کسی مادی سکان کو قبول نہیں کر سکتی۔

مجرد شے کا مادہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تقدرت کا مدد کا مظہر ہے۔ اور انسان کی تخلیق حق تعالیٰ سبحانہ کی اسی تقدرت کا مدارکہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کائنات کی آذمیش کے مارچ اور انسان کے وجود میں بدن و روح کے تعلق بیان کرنے کے بعد انسان کی تخلیق کو خدا کے عروج بل نے اپنا شاہکار گردانا ہے اور اپنے آپ کو حسن اتنا لئین کے نام سے موسم کیا ہے
هُنَّمَّ اَتَتَّخَلِقُ الْحَرَقَارَكَ اللَّهُمَّ مُسْتَحْيِيْنَ ۝

(سورہ المومنون آیت ۱۳)

پس خداوند قدوس نے روح مجرد کا عالم مادی سے اسٹاف اور دو منسانوں ہیزوں ویکھا کر کے اس ثوبہ روزگار شے کی تخلیق ذہنی ہے جو انسان کہانا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ تقدرت خداوندی کا یہ شاہکار ہے۔ پھر اسی مناسبت سے حصول علم کے لئے اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بدن نظر فرمایا ہے کہ وہ اپنے حواس سے کام لے سکے۔ چنانچہ بھیطے ڈل جب وہ بیشن مادرست تو لدھو گا ہے تو اسے کسی چیز کا عالم نہیں ہوتا۔

وَاللَّهُ اخْرَجَهُمْ مِّنْ بَطْوَنِ أُمَّهُمْ لَمَّا كُنُّوا شَيْتاً ۝

(سورہ انخل آیت ۸)

اس کے بعد وہ آنکھ، کان اور عقل و فہم کو جو عطیہ خداوندی ہیں، اپنے علم کا ذریعہ بناتا ہے۔

نفس امارہ و نفس لوامہ ایک ہی نفس کی دو حالتیں ہیں

نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مختلف حالات میں مختلف حالتوں میں ہوتا ہے۔ اولاً تو ہر نفس، نفس امارہ اور بدی کی جانب راغب رہتا ہے بجز اس کے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق الہی اس کو پچالے۔

إِنَّ النَّفْسَ لِمَّا زَادَهُ بِالسُّوءِ إِلَّا مَارِجِ رَبِيعٍ

(سورہ یوسف آیت ۵۳)

جب نفس امارگی کی حالت سے لوائگی کی حالت کو پہنچتا ہے تو وہ برا نیوں پر اپنے آپ کو ملامت کرنے لگتا ہے نیز مذکورداری پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت الطاف و اکرام الہی کی تخلی اسے جمل مرکب کے اندر صیرے سے نکال لیتی ہے۔ گویا نفس امارہ زندگی کے تمام تر منفی چیزوں سے اور نفس لوامہ تمام ترشیت چیزوں سے عبارت ہے اور جب وہ امارگی کی حالت سے لوائگی کی جانب گامزد ہونے لگتا ہے تو یہ ایسی کیفیت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی اسکی قسم کھائی ہے۔

وَلَا قِسْمٌ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةٍ

(سورہ القیامہ آیت ۲)

نفس امارہ اور نفس لوامہ کا باہمی تعلق

عہماں ایک تکتے قابل توجہ ہے کہ نفس کی دونوں حالتوں یعنی امارگی و لوائگی کے ما بین تباہ۔ ساتھی تعلق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کے بارے میں سو۔ ٹلن رہتا ہے کہ جس کو قرآن مجید میں گناہ کبیر کہا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ تُبَشِّرُونَ أَجْتَبِرُ أَمِنَ الظُّلُمَاتِ إِنَّ بَعْضَ الظُّلُمَاتِ إِنَّمَا

(سورہ الحجرات آیت ۱۲)

ممکن ہے کہ اسی سو۔ ٹلن کی بخار پر وہ اس شخص کی غیبت کرنا چاہے لیکن یک اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ خود کو اس گناہ کی پاداش میں ملامت کرنے لگتا ہے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس شخص کی غیبت کرنے لگے لیکن بروقت اسے اپنی بدگانی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ کے ارتکاب پر خود کو لعن طعن کرنے لگتا ہے تو وہ سو۔ ٹلن کے تعلق سے امارگی کی حالت سے لوائگی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے تاہم غیبت کے معاملہ میں اس کے رویہ سے ابھی بھی امارگی کا اظہار ہوتا ہے گویا اکثر نفوس کبھی تو امارگی کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی لوائگی کی۔

amarگی کا اصل سبب غفلت اور لوائگی کا لازمہ یادِ الہی اور ذکرِ الہی ہے۔ کیونکہ جب تک کوئی شخص غفلت سے پہنچاہ چڑھا لے وہ تو امارگی سے نجات حاصل کر سکتا ہے اور وہ نفسِ مطمئن تک اسکی رسائی ہو سکتی ہے۔

یادِ خدا اور اطمینانِ نفس

یادِ خدا و ذکرِ الہی اطمینان قلب کا سرچشمہ ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ یہ اطمینان حد کمال کو پہنچ جاتا ہے اور نفسِ انسان نفسِ مطمئن بن جاتا ہے۔ گویا نفسِ مطمئن کے لئے ہمدرد تن یادِ الہی دوسری تمام باتوں پر مقدم ہے۔ نیز حزن و ملال جو غفلت کے آفریدہ ہوتے ہیں، ان کا مدد ابھی یادِ خدا ہے اور ذکرِ الہی کی برکت سے مکمل طہارتی قلب حاصل ہوتی ہے۔

الْأَيَّهُمْ كُلُّهُمْ تَطْمِنُنَ الْقُلُوبُ

(سورہ رعد آیت ۲۸)

اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو امدادگی بلکہ لا اگی سے بھی نجات مل جاتی ہے اور غلطت کو جوان کا اصل سرچشمہ منع ہے، یادِ الحنیف و بن سے اکھیر پہنچنکی ہے۔

صفاتِ الحنیف اور مشیتِ الحنیف پر یقین کامل ہی اصلِ إيمان اور توحید ہے

کافی خود و خوض کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دراصلِ اطمینان قلب لَلْحُوْلُ وَلَلْقُوْنَةِ إِلَيْهَا اللَّهُ^۱ پر کامل یقین رکھنے ہی سے حاصل ہوتا ہے اور حق تو یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور حظوظ و امان کے سوا کسی دوسری طاقت کا وجود حقیقتاً ہے ہی نہیں اور کائنات میں کوئی چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، اس کے حکمر یا مغیثت و علم کے بغیر اپنا وجود رکھتی ہے اور نہ واقع ہو سکتی ہے۔

وَعِنْدَهُ مَاهِنَّعَ الْعَيْنَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ^۲ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَرِّ^۳
وَمَا سَقَطَ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَيْهَا مَهَاجِهٌ وَلِأَجْهَمِ فِي ضَلَّمٍ الْأَرْضِ وَلَأَرْطَلٍ^۴ وَلَا يَسِّيْرٍ
إِلَّا فِي يَكْتَبْ مَقْبِلِينَ^۵

(سورہ الانعام آیت ۵۹)

پس ذکرِ الحنیف کی مداومت تمام مسائب و آلام سے نجات کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ انسان کو ماوی خوشحالی یا دنیوی زندگی کی نیرنگیاں اور دلخوبیاں دھوکا نہیں دے سکتیں۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُحِبِّبِنِي الْأَرْضِ وَلَا نَسْخِمُ الْأَنْفُسَ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تُبَرَّأَهَا^۶ إِنَّمَا الْكَوْكَبَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ^۷ لِلْبَلَاتِ سُوَ اَعْلَى مَا نَأْتُكُمْ وَلَا
تَغْرِيْهُ اِبْشِرْهُ^۸

(سورہ الحمد آیات ۲۳، ۲۲)

رضاءِ الحنیف کا طلبگار ہونا اور مرضی خداوندی کے آگے سرتسلیم خم کر
وَذَا طَيْنَانَ قلب کا باعث ہوتا ہے۔

پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خدا کی خوشنودی کا طالب ہونے اور اپنی مرضی کو رضا، الحنیف کا تائیج بنادینے کے بعد نفسِ انسانی اس تدریج مطمئن ہو جاتا ہے کہ کسی اور چیز میں اس کے لئے کوئی خوبی نہیں پائی جاتی اور ہر بدلت میں اس کو خیری خیر و کھاتی دستا ہے پھر تک کہ شدید ترین مصائب میں بھی اس کو ہر چیز میں اشباعی چھلو و کھاتی دستا ہے کہ منفی چھلو۔ اور وہ ان پر باسانی غالب آ جاتا ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے محبوب بوسے بھی دو اور گالی بھی دو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ دونوں میں شیرین ترین کون سا ہے، گویا دوست جو پسند کرے وہی خوشنودی کا باعث ہے کیونکہ دوست تو اس کے لئے خیر کے سوا کسی اور چیز کو پسند ہی نہیں کرے۔ اب یہ امر بد بھی ہے کہ اگر نفسِ راضی یہ رضا ہو جائے تو خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کا شمار، حربِ اللہ میں ہوتا ہے۔

رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرُضِيَ عَنْهُمْ أُولَئِكَ جِرِبُ اللَّهُ^۹

(سورہ الحجۃ آیت ۲۲)

الحج سید محمد ہاشم دستغیب

۲۲ صفر المظفر ۱۴۳۰ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

نفس مطمئنہ کے کامل مصدق حضرت امام حسین ہیں۔

سورہ والبُرْکَ آخِری آیت ترتیف
”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعْنِي إِلَى رَبِّي
رَاضِيَةً تَرْضِيَهُ فَإِذَا دُحِّلْتَ فِي عِبَادَتِي وَأَذْخِلْتَ جَنَّتِي“

کے بعد یہ میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام حسین پر پوری طرح
اطلاق ہوتا ہے اور بد رجہ اتم اس کی مصدق دہی کامل ہوتی ہے لہذا سورہ
والبُرْکَ دوسرے معنوں میں وہ سورہ حسین ہی ہے۔

ایک اور روایت ہے کہ جو شخص اپنے فرض، سنت اور نفل مجازوں
میں پابندی سے اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ قیامت کے دن امام حسین کے
سامنے مختصر ہو گا۔

اس لئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کی شرح و تفسیر کر کے

یہ معلوم کیا جائے کہ کس طرح اس کا نطباق امام حسین کی ذات پر ہوتا ہے نیز اس تفسیر کی روشنی میں ہر شخص اپنے حسب حال یہ دیکھ سکے گا کہ اس کی اپنی ذات پر کس حد تک اطلاق ہو رہا ہے۔ مجھے اسید ہے کہ اس آیت شریفہ کی تفسیر کے ضمن میں جو واقعات و حقائق بیان کئے جائیں گے وہ بخوبی ذہن نشین ہو گے۔

بشریت کے کمال کا آخری درجہ

نفس مطمئنہ دراصل انسان کی سیرت کے کمال کا آخری درجہ ہے۔ نفس کی عالمی حالت امارگی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”إِنَّ النَّفْسَ لَا تَمْأُلُهُ بِالسُّوْجَ“

پس جب وہ کمال کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کے لئے کوشش ہوتا ہے تو نفس لوامد بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”فَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَامِةَ“

پھر الہام کا مرحلہ آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

”فَالْعَمَّاعَفْجُورُ هَا وَتَقَوَّماً“

یہ کیفیت نفس ملکہ کی ہوتی ہے اس حالت سے آگے بڑھ کر اطمینان نفس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد مراقب ہیں جس کی انتہار ارضیہ مرضیہ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ گویا آخری درجہ کمال وہ ہے جس میں علم و عمل نفس کے لئے بال و پر بن جاتے ہیں اور وہ ملا۔ اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ یہاں نفس کے درجہ کمال کے انہی چار مراتب کا خلاصہ بیان کرتا مقصود ہے۔

نفس تو ایک ہی ہے لیکن وہ مختلف الحال ہوتا ہے۔

ضمناً اس کا ذکر کرونا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی یہ چاروں کیفیات یعنی امادہ، لواس، ملہمہ اور مطمئنہ چار علیحدہ عینہ و جو دیگر کے حامل نہیں بلکہ نفس واحدی کی چار مختلف حالتیں ہیں اور باعتبار حالات نفس بھی مختلف الحال ہوتا رہتا ہے۔ ہر فرد بشرطی سیرت و کردار کے بموجب انہی چاروں مراتب میں سے کسی ایک مرتبہ کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی ہر نفس ایک وقت میں کسی ایک حالت میں ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ ابتداء میں نفس امادہ ہوتا کیا ہے؟ اس کا جواب ہے نفس انسانی۔ شروع میں جب وہ عقل و فہم کی روشنی سے نا آشنا ہو تو امارگی کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنی انتہائی حالت میں اس پر سرکشی نیز حاکیت کی دھن ڈوار ہوتی ہے اور وہ خود کو بندہ حضرت و عابر خیال کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ انجیاں علم السلام کی دعوت اور داعیان الی اللہ کی تعلیمات اس سک بخختی رہتی ہیں کہ اللہ قادر سلطان ہے اور عکیم و خبیر ہے جو اپنے بندوں پر زر دست قدرت رکھتا ہے۔ **”وَمَوَالِ الْقَاهِرِ فَوْقَ عِبَادِهِ“**

(سورہ النعام۔ آیت ۱۸)

لیکن اپنے زخم باطل میں وہ اپنے آپ کو حقیقی فرمایزو اور حاکم خیال کر رہا ہے۔ ہے۔ وہ ہرگز اس بات پر آمادہ نہیں ہو جاتا کہ خود کو زیر دست یا بندہ خیال کرے اور اسی خام خیالی میں بندہ کی حیثیت سے اپنے فرائض اور واجبات کی بجا آوری میں ہزاروں حیلوں ہمانوں سے کام لیکر چھلوٹتی کرتے رہتا ہے۔

بندگی کے منصب سے جی چھ راما

اے انسان تو فراموش کر یہ مٹاہے کہ نظر کی ایک حیر بوند سے تیری
تخلیق ہوئی ہے لیکن اس حیر بوند کا کر شر دیکھ کر وہ مدرسہ تو ناتا بدن کی
شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اپنے بدن کی مضمونیوں پر نگاہ ڈال۔ جسم کے رُگ
وریشے اور عجَر کو دیکھو وہ کیسا عجیب و غریب کارخانہ ہے جس سے بیسیوں قسم
کے افعال داہست ہیں۔ قلب کی حریت انگریز کار فرمانیوں پر نظر کر، خون کی
صنائی کے نظام، گردوس اور مددہ کے افعال کو دیکھو اور جنگرہ و پیغمبروں کی
حرکات پر غور کر کے یہ سب کے سب کس طرح اپنے اپنے کاموں پر مامور کر
دیئے گئے ہیں۔

اپنے احساسات و ادریکات کا شعور پیدا کر، حافظہ اور حس مشعر، نیز
وقت تخلیل کے بارے میں سوچ بچارے کام لے۔ کیا یہ سب کچھ تیری عظیم
صلائیتوں کا ثبوت ہنیں، اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تمام صلاحیتوں تیری اپنی
ذات نے خود پیدا کر لی ہیں؟

نفس چونکہ ہنوز امارگی کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے ہبانے گماش
کرتا اور اچھل پڑتا ہے اور کام کو اپنی بی ذات کا کر شر قرار دتا ہے نیز قانون
فطرت کے خلاف پکار اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہو گیا ہے۔ غریب
طرح کی تاویلات کرتا اور شک و تباہ میں مبتلا ہو کر بندہ ہونے سے انکار
کر دتا ہے۔ کیونکہ امارگی کا تلقانا یہ ہے کہ خدا کے سامنے سر تسلیم ختم
کرے۔

بِلْ يَرِيدُ إِلَّا إِنَّسَانٌ لِيَفْجُرَ أَمَاءَهُ

(سورہ القیامتہ۔ آیت ۵)

ہر چند کہ اس کے کافوں میں معاد کے بارے میں دھوت حق کی آواز
برابر بھیجتی رہتی ہے کہ اے انسان جس وقت تیرا یہ بدن باقی نہ رہے گا۔ اس
وقت عدل الہی کے ہاتھوں ہر فرد کو اپنے اعمال کا بدلہ ملتے گا۔ اگر محمل اچھا کیا
ہو تو اس کی جزا بھی اچھی ہوگی لیکن اگر برائیوں کا راتکاب کیا ہو گا تو اس کی سزا
بھی پائے گا۔

قرآن مجید میں معاد کے بارے میں جو دلائل وارد ہوئے ہیں ان پر
خوب غور کرو۔ سورہ واقعہ تو ان برائیوں دلائل سے بھرا ہا ہے۔ نیز دوسری
مستحدوں سو توں میں بھی اس کا ذکر کرو آیا ہے۔

نفس امارہ شتر بے مہار ہے

نفس امارہ تو عیش و عشرت کی زندگی سے دست بردار ہونے ہمیں دستا۔
جو شخص مقامات عالیہ سے ہمکار ہونا چاہتا ہے اور ان کی لمحتوں سے سرفراز
ہونا چاہتا ہے اسے چلے گے کہ اپنی زبان اپنی آنکھوں اور اپنے کافوں کو قلعوں میں
رکھے لیکن نفس امارہ کسی قید و بند اور پابندی کو قبول کرنا ہمیں چاہتا اور
قیامت کے واقع ہونے سے بھی انکار کر دتا ہے اور بزم خود پر کہنے لگتا ہے کہ
اس دوسری دنیا سے کون لوٹ کر آیا ہے جو آخرت کی خبر دے سکے۔ وہ چند
روزہ حیات مستحکم پر نازار و فرحاں زندگی گزارنے پر سصر ہوتا ہے جس میں نہ
تو کوئی پابندی ہو اور نہ کسی قسم کا جبر۔ ہر وقت اس پر دولت سمیثیں کا جنون
سوار ہتا ہے پھر معاد کی فکر لاحق ہو تو کیونکہ معاد کا قائل ہو جائے تو وقف
کے مال میں تصرف بے جا پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے۔

نفس امارہ دولت جمع کرنے کی دھن میں معادے بے نیاز اور غافل ہو کر اپنی جواب دہی کے خیال کو خاطری میں ہنسی لاتا ہے اسے پیٹ بھرنے سے غرض ہوتی ہے خواہ وہ حرام کی کمالی سے ہو یا حلال ذرائع سے۔ نفس امارہ تو ایک شتر بے مہد ہے اور اسی عالم میں زندگی گزارنے پر اکٹا کرتا ہے۔ معاد یا قیامت کے خوف کو دل میں پھیلنے بھی ہنسی دستا اور حشر و نشر کو رجعت پسندوں کے ڈھکوٹے قرار دتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جن کی کوئی وقت نہیں۔ نفس کی امارگی کا ایک اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حاکم مطلق کی جھنے لگتا ہے کہ اس سے باز پرس یا اس کی سرزنش کا کسی کو حق نہیں۔ اس کے خیال میں حلال و حرام کی تفرقی بے جا پابندیاں عائد کرتی ہے۔ اس کے نزدیک ہر قسم کا مال کھانا رہا ہے چاہے یقین کامال ہو یا تجارت میں دھوکہ دیکر یا گناہوں میں ملوث ہو کر حاصل کیا جائے۔ امارگی کا تلقان یا بھی ہے کہ آنکھوں پر کوئی روک نوک نہ ہو ہر قسم کے حرام مناظر سے لطف انداز ہونا اس کا حق ہے غرضیکہ وہ اپنی امارت اور حکومت کے زعم باطل میں بستا ہو کر ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد رہا چاہتا ہے اور اس پر اسے اصرار بھی ہوتا ہے۔

نفس تو ایک اژدها ہے۔

تم نے یہ تو سنا ہو گا کہ نفس کافر ہوتا ہے کیونکہ نفس کی امارگی تمام تر کفری کفر ہے اور نفس امارہ کا حامل نہ صرف اپنے آپ کو حاکم مطلق کرتا ہے بلکہ امارگی کے نش میں سرشار ہو کر وہ خدا نامہ مقابل بن یہ سمجھتا ہے اور نوبت ہمہں تک ہمچلتی ہے کہ وہ ربویت اور الہیت کا دعویٰ کرنے سے بھی گزید نہیں کرے۔ اسی کھنڈ میں وہ چاہتا ہے کہ گردش افلاک محض اس کے اشارہ کی

تایا ہو جائے۔ کوئی واقعہ اس کی مرضی کے مطابق ہو تو پھولہ نہیں سماتا اور اگر اس کی خواہش کے مخالف کوئی صورت حال رونما ہو تو بالکل ایک اژدہ کی طرح غیظ و غصب میں پھنکا رہے لگتا ہے اور سارے عالم کو ہے والا کر دنا چاہتا ہے۔

قضاء و قدر اور نفس امارہ۔

جب وہ دولت و شرودت کے پیچے اندر ہند بھل گئے لگتا ہے اور اتنا شا سے حالات سازگار ہو جانے سے اس کے پاس دولت کے انبار جمع ہو جاتے ہیں پھر تو وہ اس خط میں بستا ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے اور دولت کی یہ فراوانی اس کی اپنی مسائی کا شر ہے۔ اپنے جھوٹے پندار میں میرے موئے قلمبی کی بد دولت احتمال و مسائی میرے ہاتھ آیا ہے لیکن میں نے یہ کچھ کیا تو مجھے اتنا کچھ حاصل ہوا۔ لیکن اگر فلک کج رفتار اس کی مراد پوری نہ ہونے والے ملاؤں کامال و مسائع آتشزدگی کا شکار ہو جائے یا کوئی اور نقصان انجمنا پڑے تو وہ غصہ بنناک اور بے چین ہو جاتا ہے اور اضطراب کی کیفیت میں بوکھلا سا جاتا ہے۔

وہ پکار اٹھتا ہے کہ افلاک کی گردش اور اس عالم کے پورے نظام کو میری مرضی کا ہمایع ہونا چاہتے۔ خلاف مرضی کوئی واقعہ پیش آئے تو قضا و قدر الی بھی اس کے غیظ و غصب کی زد میں آجائے ہیں۔ اس کا کوئی بیٹا مر جائے تو شکایت ہی نہیں بلکہ گستاخانہ کلمات ہے سے بھی گزید نہیں کر ساکہ فلاں بڑھے یا فلاں بوجھا کو تو چھوڑ دیا اور میرے جوان بیٹے کو موت کی نیمند سلا دیا۔ اس کا

بس پڑے تو وہ ملک الموت کو بھی نکزے کر دنا چاہتا ہے جس نے اس کو
یہ دکھ ہبھایا ہے۔

خدا حکیم و علیم بھی ہے اور مدبر عالم بھی۔

اے نفس تو جو چاہے خیال کر لیں اس کائنات میں ایک مدر اور
کار ساز بھی ہے۔ ہو۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہی رب ہے اور وہی ہماری
پروردش اور تربیت بھی کرتا ہے۔ وہی عالم ہست و بود کے استثنامات پر قادر ہے
اور ہر فرد بشر کی تقدیر اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے ہماری زندگی کے ہر
کام کے لئے ملائکہ مامور کر دیتے ہیں۔

**فَسَبَحَنَ اللَّهُ مَبْدُؤْهُ مَلَكُوتُهُ كُلُّ شَوْرٍ وَأَنْدِيرٍ
تَرْجِيعُونَ**

(میں۔ آیت ۸۳)

حیات اور موت اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ وہی مارتا اور جلاتا ہے۔
اس کے حکم کے بغیر کسی کے تن خاکی سے جان ہنس نکلتی۔ اس نے اپنی
حکمت بالغ کے مطابق ہر فرد کی اصلاح احوال کے لئے فرشتے مقرر کر دیتے
ہیں۔

پس اے انسان۔ راہ احمدال سے بھکلنے میں تیری بھائی ہنس۔
خیال نہ کر کہ تیرا مال، میثیہ بستے والا ہے اور نہ اس ٹھینڈیں بٹلا ہو کہ یہ مال
تیرے ہی ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ کفر کا راستہ القیادہ کر کیوں کہ سارے امور
ہر الامر جل شانہ کی حد تک کے پاہنڈیں۔ اس کی مصلحت نے جتنا مناسب جانا
عطایا کر دیا۔ جس کی روزی کم کرنا چاہی کم کر دی۔ امدادگی کی روش سے باز آجائے اور

اپنے آپ کو خدا کا ہمسر بنا۔ نیز اپنی رائے کو خدا کی مرضی اور مصلحت و حکمت
کے مقابلہ میں مقدم نہ بھجو۔ بندے کو چاہتے کہ تسلیم درضا سے کام لے اور
خدا کی طرف سے جو کچھ بھی اس کے لئے پسند کیا جائے اس کو بلا چون وہ را قبول
کر لے۔

اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اسی میں بھلائی ہے۔

ولاد کی سوت کا حادث بھی ان حادث میں سے ایک ہے جس کو خالق
حقیقتی نے مقدر فرمادیا ہے اور مصلحت خداوندی کے تحت ہی کسی نوجوان کی
وفات واقع ہوتی ہے۔

**مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي
تِبْيَانٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تُبَرَّأُوا مَا رَأَيْتُمْ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
(سورہ الحمد۔ آیت ۲۲)**

ایسے میں شکایت کیوں۔ اس کی تلفی کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو
وحدے فرمائے ہیں ان پر نظر ہوئی چاہئے۔ ہر کام کا اہر خدا کے ذمہ ہے۔ اہذا
قدرت کے کاموں پر ناراض ہو جانا کوئی عقائدی نہیں۔ راضی برضا ہونے
میں ہی فلاح و نجات ہے اور قیامت کے دن اس کا اہر ضرورتے گا۔ اے
انسان تیرارازق تو خدا ہی ہے۔ نجگے کیا معلوم کہ پر وہ غیب سے اس کی مصلحت
اور حکمت کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اپنی حکمت سے بندے کے لئے وہی
مقدار کر دیتا ہے جس میں اس کی بحداد ہوتی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر اس
عالم ہستی میں کوئی پتا نکل درخت سے ہنسی گرتا۔ تیری اولاد کی موت بھی اس
کے اذن اور اسکی مشیت کے بغیر واقع ہنسی ہو سکتی۔ لیکن اس کی مشیت اور

اس کے حکم میں جو مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے وہ ہر شخص کی بحث سے بالاتر ہے۔

مصلحت خداوندی سے بے خبری ہی بے صبری کا اصل سبب ہے

اے نفس شکر و صبر کو اپنا شعار بنا۔ حیلے ہمانوں اور شکایتوں سے کام نہ لے۔ لیکن ایسا شکر و صبر، جو مجبوری کی بنا پر نہیں بلکہ امر ہیں الامریں کا مظہر ہو۔ یعنی احصال کے راستے پر گامزن ہو جا جس میں تیرا اختیار ہاتی رہے اور جریکا دھل نہ ہو۔ البتہ یاد رکھ تیرا اختیار بھی اذن الہی اور مشیت الہی کے مطابق ہو تو تیرے ہاتھوں وہ کام ضرور انجام پائے گا اور وہ نہ چاہے تو تیری ہر سعد برناکاہی سے بدل جائیگی۔

حقیقت یہ ہے کہ سارے واقعات اور حوادث جو روئما ہوتے ہیں یا روئما ہونے والے ہوں لوح محفوظ میں لکھ دیئے گئے ہیں اور ان کی حیثیت تقدیر انہی کی ہے ہمدا جو کچھ مقدار ہو چکا ہے اس پر راضی رہنا چاہئے۔ لیکن نفس امارہ اس حقیقت پر کوئی دھیان نہیں دتا اور صبر و شکر پر آمادہ نہیں ہوتا۔

ایسی بے صبری جس میں شکایت یا اعتراض کا ہبلو ہو حرام ہے۔

کسی کی موت پر اس طرح گریہ وزاری کرنا جس میں خدا سے شکایت اور قضا۔ وقدر الہی پر اعتراض کا ہبلو نکلتا ہو حرام ہے۔ کپڑے پھال لینا سر پہنچنا سینے کوبی کرنا یہ سب ایسی حرکات ہیں جن کے ذریعہ امر الہی پر اعتراض یا شکایت مقصود ہو تو یہ سب حرکات حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس بارے میں متعدد رسائل موجود ہیں جن کو پڑھنے سے مزید تفصیل سے آگہی ہو۔

سکتی ہے۔ آخر انسان کو خالق حقیقی کی قدرت کامل پر اعتراض کیوں ہے؟ جان تو اس کی دی ہوئی ہے اور دی اپنی دی ہوئی شے واپس لینے پر بھی قادر ہے۔

نفس کی امارگی اور جنم کی طرف لے جانے والے اعمال:

قضاء و قدر الہی پر اعتراض ہی سے نفس کی امارگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کیونکہ اس حالت میں وہ صریح انکفر خداوندی اور شرک کا مر عکب ہوتا ہے۔ اور قضا اتنی مذموم ہنسیں کہ خدا کی حکمت و مصلحت کو بلا چون و پھر اقبال نہ کرے قضا و قدر الہی پر اعتراض شروع کر دے۔ مثلاً یہ کہ زلزلہ کیوں آیا، بارش کیوں نہیں ہوئی، وغیرہ اس قسم کی باتیں سیدھے جنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جبکہ تسلیم و رضا جست کی ضمانت ہے۔ حقیقی سخنوں میں ایمان پائش پیدا ہو جائے تو اس سے بدل کر خوش بختی کیا ہو سکتی ہے۔

ایک اندھے اور مفلوچ کا قصہ، جو ہر حال میں صابر و شاکر تھا۔

حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رخواست کی کہ اپنے محبوب ترین بندے سے ان کی ملاقات کروادیے۔ وہی نازل ہوئی کہ فلاں مقام پر جاؤ تو اس سے مل سکو گے۔ جب موسیٰ وہاں پہنچ چکا تو ایک مریض کو دیکھا جواندھا اور مفلوچ بھی تھا۔

حضرت موسیٰ اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس کا حال احوال دریافت کرنے لگے۔ یہ درود کر رہا تھا۔ اسے نیک بندوں کے خدا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم اندھے بھی ہو اور مفلوچ بھی، پھر نہ کس طرح خدا کی نعمتوں

حرکت سرزد ہو جائے۔ جس سے اس کی خودی "محروم ہوتی ہو تو اس کا دل بے چین و ملوں ہو جاتا ہے ممی ایمان کی بھی سب سے بڑی نشانی ہے جس کے بعد اس کا نفس امارگی سے لوگی کی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر خود ہی لعنت طامت کرتا ہے کسی اور کو مطلعون کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

جب کسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو اس کی ذات کے اندر ہی ایک ناصح پیدا ہو جاتا ہے۔

خدا چاہے تو تیرے اندر ہی ایک ناصح پیدا ہو جائے۔

میں، میں کہنا چھوڑ دے اگر کوئی تیری تعریف کرنے لگے اور تیرا نفس میں، میں کہنا چھوڑ دے اگر کوئی تیری تعریف کرنے لگے اور تیرا نفس منوز امارگی کی حالت میں ہو تو، تو بھی اس کی ہاں ہاں میں ملائے گا اور خوش ہو گا لیکن اگر نفس امارہ سے تو نے چھٹکارا پالیا ہے تو اس بات پر تو محظوظ و ملوں ہو گا۔ اس خیال سے کہ یہ حرکت آداب بندگی کے معنی ہے۔ نیز خود کو طامت کرے گا کہ مجھ سے یہ کسی حرکت سرزد ہو گئی اور یہ کیسے الفاظ میری زبان سے جاری ہو گئے، اور کہے گا "استغفار اللہ" یا اللہ! مجھے معاف فرماء اور میری کوشش فرم۔

"فَلَا وُقُومٌ بِالنَّفْسِ الْوَوَاعَةٍ" لوگی گویا عبودت کا یہ ملازم ہے۔ اگر اپنے آپ کو اس حال میں پائے تو خدا کا شکر بجالا کہ تو ایمان پر چل پڑا ہے اور علی علیہ السلام کی صراط مستقیم پر گامزن ہے مجھے چہہ کہ اس راستے پر استقامت سے سلسلہ چلتا ہے تاکہ جب کبھی کوئی خطایغ خوش ہو جائے تو خود کو طامت کرنے لگے۔

کے شکر گزار ہوا در خدا کی حمد و شکر سے غافل نہیں ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ایک مدت تک میری آنکھیں صحیح و سالم تھیں اور میں اپنی زندگی کی ضروریات بخوبی پوری کرنے کے قابل تھا، حرام ہم اور شہوت انگیز مناظر پر میری نظر نہیں بہتی تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں ہی داپھ لے لیں تاکہ حرام میں میری لگاہ پڑنے پائے۔ اس نے مجھے پاؤں بھی دئے اور میں نے ان سے کاہتہ استغفار۔ کہیں کسی حرام جگہ پر میرا پاؤں پڑنے نہ پایا۔ اس لیے اس نے میرے پاؤں والہیں لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عالم ہست و بود میں، جس میں ہم بہتے ہیں اس نے مجھے ایسی لعنت سے نوازا ہے کہ کسی اور کو نہیں دی۔ پھر کیوں نہ اس کی لعنت کا شکر ادا کروں؟

حضرت موسیٰ نے پوچھا۔ وہ کوئی لعنت ہے؟۔ اس نے جواب دیا کہ ایمان کی لعنت۔

بدن صحیح و سالم اور دل بے چین۔

تم دیکھتے ہو کہ بدن صحیح سالم ہوتا ہے لیکن اس بدن کے اندر جو دل ہے اس میں جگنی خیالات موجود رہتے ہیں۔ کیونکہ نفس کی امارگی نے خدا کی ناشکری اور کفر پر مائل کر کے اس کے اندر جہنم کی آگ بھڑکا دی ہے۔ جنکوک دشیبات نفس کی حکمرانی اور خواہشات کی غلامی کے تیجے میں اس کی نیذریں حرام کر دیتے ہیں۔ پس مومن کو چاہئے کہ نفس کی امارگی سے چھٹکارا پا کر کامل یقین و ایمان کے رتبہ پر فائز ہونے کے لئے کوشش رہے۔ زیجا خواہشات اور عقاوتوں کو دل میں جگہ نہ دے۔ امارگی سے نجات کی عملی نشانی یہ ہے کہ اگر اہمی کسی خواہش کو دبانے سے مجبودت کے تھامنوں کے برخلاف کوئی ایسی

بعض بزرگوں نے تو اپنے نفس کو طامت کرنے میں عجیب و غریب کارنامے انجام دئے ہیں مثلاً کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے آپ کو سزادینے کی خاطر ایک سال تک نہنڈا پانی اپنے اوپر حرام کر لیا۔

نفس پر نیکی اور بدی ہردو کا الہام ہو سکتا ہے۔

نفس جب لوگی کے درجہ پر بینچ جائے تو الہام کا مرحلہ شروع ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ "فَالْعَمَاحُوْجُورُهَاوْتَقُواْهَا"۔ الہام وارد ہو تو خیر و خوشی ہمچنان ہونے لگتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ اگر الہام ہو تو بہت سارے کام ایسے انجام پاتے ہیں جو بظاہر تو بخلے لگتے ہیں لیکن دراصل گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثلاً یا کاری یا غزوہ و غیر۔ لیکن الہام کی بدولت وہ ان برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ جب یہ منزل طے ہو چکتی ہے تو پھر نفس مطمئنہ کا مرحلہ آتا ہے۔ یعنی ایمان کے بارے میں بھی اس تعلق سے کوئی تردید یا شک و شبہ پیدا نہیں ہونے پاتا اور نہ ہی کسی اور کا اتباع اور تقلید قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔

نفس کی خواہشات و شهوات اور متناویں کا کوئی وجود نہیں رہتا بلکہ نفس کی خواہشات کی جگہ، رضاۓ الجن لے لیتی ہے یعنی جب شیطان نکل بھاگتا ہے تو فرشتہ داخل ہوتا ہے۔

جب ایمان کامل کی بدولت نفس پوری طرح مطمئن ہو جائے تو تکین و سکون کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ کے دلوں میں خود سکینت کا نزول فرماتا ہے تاکہ ان کا ایمان مزید پختہ ہو جائے۔

**مُوَسَّىٰ أَنْزَلَ التَّكِبِيرَ فِي قُوْبَبِ الْمُؤْمِنِينَ
لِيُذَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ**
(سورہ فتح۔ آیت ۳)

علمائیت نفس کے اثرات۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت آرام و سکون کا باعث بنتی ہے اور نفس اسی قسم کی بے چینی و اضطراب کا شکار نہیں ہونے پاتا اور اس خیال پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے کہ بندگی صرف خدا نے واحد کے لئے ہے۔ اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ اسکی روزی تو اللہ تعالیٰ وسیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتَّقِيُّ
(الذاريات۔ آیت ۵۸)

کیونکہ وہی رزاق ہے اور کہتا ہے کہ میں حالی ہاتھ آیا تھا اور حالی ہاتھ ہی اس دنیا سے جاؤ گا اور جب تک زندہ ہوں میرا رزق اور روزی اسی کے ذمہ ہے۔

دیوالیہ تاجر کا قصہ۔

اسی شہر شیراز میں قریب چالیس پچاس سال قبل ایک تاجر بہا کرتے تھا جو بڑا مقدس اور مشہور تھا اور بڑی عبادت کیا کرتا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ وہ دیوالیہ ہو گیا۔ اس نے خانہ نشینی اختیار کر لی اور اپنے پچھے کچھ اٹاٹے فروخت کر کے گزر بس رکرنے لگا۔

یوم عاشورہ میں حضرت امام حسینؑ کا سکون۔

اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس آیت شریف کی تطبیق کس طرح
حضرت امام حسینؑ پر ہوتی ہے۔

حضرت امام حسینؑ بدرجہ اتم نفس مطمئن کے حامل ہیں اور اس آیت
کا تمام تر مصدق اشہاد کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے
کہ عاشورہ کے روز حضرت امام حسینؑ پر جو بھی نئی مصیبت پڑتی ہر مرتبہ ہبہ
مبارک زیادہ روشن ہو جاتا اور زیادہ کھل اٹھتا۔ یہ سکون اور طہانیت عجیب و
غیرہ تھی کہ قضاۃ و قدرالحق اور مرضی خداوندی ہی آپ کے ہمراۓ سے آشکار
ہو رہی تھی کیونکہ آپ کو کامل یقین تحاکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سجانب اللہ ہے اور
اس میں بھی اسی کی صحت کا در فرمائے۔ اس لئے آپ نے اس کے سباب یا
جوابی کارروائی کا ارادہ نہیں کیا۔

یہ کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی عین مرضی تھی کہ حضرت
امام حسینؑ با اختیار ہونے کے باوجود ان مصائب کو جھیل جائیں تاکہ ایک
بشر کے لئے جو بلند سے بلند مقام ہو سکتا ہے اس تک آپ کی رسائی ہو جائے۔
اس طرح کہ آپ کے قاتلوں کی بے رحمی اور شقاوت اس کے لئے انتہائی
بد بخی کا موجب بن جائے۔

چونکہ خداویکھ رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔

حضرت امام حسینؑ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک طفل شیر خوار خود ان
کے ہاتھوں میں ہے اور ظالموں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت

ایک دن اس نے اپنے تمیں سچھا شروع کیا کہ اگر میں اسی طرح ہر
روز اپنا اٹا شہزادہ کرتا رہتا تو یہ کتنے دن کام آئے گا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ
تین سال سے زیادہ کام نہ چلے گا۔ یہ خیال اس کے دل میں گھر کر گیا اور اپنے
آپ سے یوں گویا ہوا کہ تین سال بعد تو میں لگیوں کی خاک چھانتا پھر وہ کا اور
بھیک مانگنے کی نوبت آئے گی۔ بھی سوچ کر اس نے زہر کھایا اور خود کشی کی
موت مر گیا۔

ایمان ہی کمال طہانیت ہے۔

اس تاجر کو اپنی عبادتوں کے باوجود طہانیت نفس حاصل نہ تھی اور
قطاً و قدر الحق پر ایمان رکھنے کے بجائے اس نے کفر کار است اختیار کیا اور اسی
کفر کی حالت میں دنیا سے پل بسا۔

میں نے یہ واقعہ جو بیان کیا ہے اسے معمولی نہ خیال کریں۔ دین کی
وجہ تو ایمان ہے اور حق عین ہے۔ اس لئے ہر شخص کو طہانیت نفس کے
صول کی خاطر کوشش رہنا چاہیے۔ کیونکہ اطمینان کلی اور صبر و شکر میں کمال تو
وہ رفت ایمان ہی سے حاصل ہو سکتا ہے یعنی "اوْلَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ
مُهْتَدُونَ"

رَأَيْتَهُوْنَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ اللَّوْلَانَاظِرِ

تحتی کہ پھر بھی لرزائختے اور دیکھنے اور سنتے والوں پر سکتے طاری ہو جاتا لیکن حضرت امام حسین جو نفس محدث کے حامل تھے فرمائے گے۔

لیتی اللہ تعالیٰ میرے لئے یہ صیبت آسان کر دے گا کیونکہ یہ سب کچھ اس خداۓ بصیر کے سامنے ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم صیبت اور طفل شیر خوار کی ہلاکت کے جگہ فراش داع کو بھی آسان کر دیا کیونکہ حضرت امام حسین کا خدا سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہی اس کی پاداش میں ان کے قاتلوں کو سزا بھی دے گا۔

وہ آخری لمحات میں خدا کے ائمۃ قریب ہو چکے تھے لہ خداوند عالم اور طالگہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گویا حضرت امام حسین تو خدا کی طرف متوجہ تھے اور سارا عالم ان کی طرف متوجہ تھا۔

وَلَا تَكُونُوْنَا كَالَّذِينَ نَسْوَ اللَّهَ فَإِنْسُمْ أَنفُسُهُمْ
أُولُوْنِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
بدن اور روح کا تعلق

نفس کی معرفت یہ ہے کہ بھلے انسان خود اپنے آپ کو ہچھانٹنے کی کوشش کرے ہے اس کو اپنی اصلیت کا عالم ہو اور اپنی ابحدام کے بارے میں معرفت حاصل ہو جائے لیکن یہ جان سکے کہ اس کا یہ بدن یہ گوشت و پوت یہ ہڈیاں اور رگ و پے دراصل روح کی کار فرمائی کے ذریعہ ہیں۔ گویا ان کی آفرینش بعض روح کی حاضر ہوئی ہے اور بدن کو اس کا تابع بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ نفس کو کمال تک ہیچخانے کے ذریعہ ثابت ہو چنانچہ بدن ہی کے ذریعے ان کمالات کا ظہور ہوتا ہے۔ نفس کے لئے عالم و عمل کی تخلیص بھی اسی بدن کے ذریعہ ممکن ہے۔ اسی بدن کے وسیلے سے وہ جزئیات عالم کے اسرار سے واقف ہو جاتا ہے اور اسے فطرت کے قوانین سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ اپنے انہی کانون سے وہ کائنات میں ہر طرف نغموں کے سرور سے آشنا ہوتا اور اپنی اسی ناک کے ذریعہ دنیا میں پھیلی ہوئی مخلوق جاننما کی خوبیوں کا درآک کرتا ہے۔

آنکھیں اور کان عظمت خداوندی کے اور آک کا ذریعہ ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ بدن ہی روح کی اور اکات کا وسیلہ بن جاتا ہے اور جزئیات کا اور آک کرتے کرتے اس کی رسائی کھیات تک ہو جاتی ہے۔ جو کچھ

دیکھتا سنتا اور سوچتا ہے وہ سب اس کے لئے علیم خداوند کے شوابد بن جاتے ہیں اور جب اتنی کچھ آجائی ہے تو بے ساختہ پکارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا مقل جس طرف رہنائی کرے اس کے مطابق اس کی زبان بول اٹھتی ہے۔ اسے جس بات کا ادراک ہوتا ہے اور اس کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ خدا کی نعمت ہی تو ہے اور الحمد للہ کہ کراس کی زبان اسے آشنا کر دیتی ہے۔ غریبکہ بدن کی حیثیت روح کے لئے وسیلہ کا درجہ رکھتی ہے۔

اعضائے جسم روح کی کار فرمائی کا وسیلہ ہیں۔

یہ توبہ ہی جلتے ہیں کہ ہر کام کو انجام دینے کے لئے وسائل اور ذرائع درکار ہیں۔ اہم ذرائع جس وقت تک اس کا لبدھاکی میں رہتی ہے اس کو بھی اعمال خیر کے لئے کوئی ذریعہ چلہتے۔ پس انسان کے ہاتھ پاؤں روح کے لئے ہمی کام انجام دیتے ہیں۔ ورنہ ہاتھ کے بغیر یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ کسی گرے ہوئے بوجہ کو اٹھا سکے اور کسی کی مدد کر سکے۔

ای طرح خیر کا ایک کام یہ ہے کہ میاں بیوی کے مابین مصلحت کرادی جائے۔ لیکن زبان نہ ہو تو وہ کس طرح دونوں کے مابین قند و فادی اگ کو الفاظ کے ذریعہ بجا سکتا ہے۔ پس زبان کے بغیر وہ اس کا خیر کی انجام دی سے قادر رہے گا۔

السان کے پاؤں نہ ہوں تو وہ کس طرح ساجد تک پہنچ پائے گا یا عبادات خانوں، مجالس وعظ و تفسیر میں شریک ہو سکے گا اور معارف الہی سے آگئی حاصل کر سکے گا۔

غریبکہ ہمارا یہ بدن روح کی کار فرمائی کیلئے وسیلہ کا کام درستا ہے۔

علی اور عملی قوا کا اظہار بدن کے بغیر ممکن ہی نہیں اور ان کاموں کی تکمیل بدن ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر بدن اپنا کام چھوڑ دے تو روح کے کمالات بھی مانند پڑ جاتے ہیں۔ یہ بدن ہی کی برکت ہے کہ اللہ جل جلالہ نے روح کو انسان کے لئے مسخر کر رکھا ہے اور اس کا مطیع بنا دیا ہے تاکہ وہ بدن کے ویلے سے اپنے کمالات کا اظہار کر سکے۔

جسم کا نباتات اور قدرت الہی۔

جسم انسانی کے ساتھ روح کا تعلق ایسا ہی ہے جیسا کہ اس پوری کامیابیات میں قدرت الہی کے آثار و شوابد موجود ہیں۔ جس سے پروردہ گار عالم کے بیے انہیں ارادہ از لی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح کہ خداوند کریم لپٹنے ارادہ مطلق سے جو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے وجود بخشتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔

إِنَّا أَنْشَأْنَاكُمْ حَاجَةً إِذَا أَرَادُ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ تُكُنْ فَيَكُونُ.
(سورہ یس - آیت - ۸۲)

روح کو بھی انسان کے جسم کے ساتھ ہی نسبت ہے اور خالق حقیقی نے ان دونوں میں ایسا تعلق پیدا کر دیا ہے کہ روح جو کوئی ارادہ کرتی ہے تو خواہ و ناخواہ جسم اسی کے مطابق حرکت پذیر ہوتا ہے۔
..

قدر خودت بدن و خدا کے خودت را بخشیں
یعنی اپنی قدر بیچان تاکہ اپنے خدا کی سرفت حاصل ہو۔
انسانی جسم کی یہ عظیم عمرت جس کے وجود کو خالق ارض و سانے

ایک سہموی سوئی کس طرح اپنے سے کئی گناہوںے و وزن کو اٹھائی ہے حالانکہ تعجب تو اس پر ہونا چاہیے کہ خود ہمارے بدن کے اندر ہماری روح کس طرح جذب ہو چکی ہے اور ہمارے رُگ و پے میں سرایت کئے ہوتے ہے۔
روح یا نفس ناطقہ کا یہ کمال ہے کہ محض اس کی قوت ارادی کی بدولت انسان پچاس سال تک کیلو وزن تک اٹھایتا ہے۔ کیا اس پر تعجب ہتھیں کہ خداوند عالم نے اس روح کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے؟

روح تنہا کی آدمیوں کے کام کرتی ہے۔

جب روح بسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ کی لاش کو چار آدمی اپنے کندھوں پر بمشکل اٹھاتے ہیں لیکن زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد عکس روح کو دیکھو کہ وہ کس طرح اسی بھاری بھر کم جسم کو کتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ بلا تکلف لئے پھرتی ہے۔ صرف یہ بلکہ دوڑتی ہے اور اچھلی کو دیتی ہے۔ کیا روح کا یہ کمال خدا نے حکیم و دانا اور قادر سلطان کی قدرت کا شیوٹ ہنسیں۔ پھر تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہواںڈا کبر۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس جسم کو میرے لئے سحر کر دیا ہے۔

پس چاہیے کہ چلتے اپنی روح مجرم اور نفس ناطقہ کی ذات و حقیقت کو پہنچنے کی کوشش کرو گا کہ اپنے خالق کی معرفت حاصل ہو سکے۔

سیکڑوں قوائے ظاہری و باطنی پر قدرت بخشی ہے ان میں حواس خمس یعنی لامسہ ذائقہ باصرہ سامعہ اور شامہ کے علاوہ حافظہ اور داہمہ و حیلہ نیز قلب کی کارکردگی گردوں اور مددہ کے وظائف اور نظام سہم و نظام تنفس وغیرہ سب شامل ہیں اور بدن میں ان کی ساخت و تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ سب کے سب روح کے اختیارات میں دیدنے گئے ہیں۔

روح کی مختیت اور جسم انسانی۔

جب تم کہیں جانے کا ارادہ کرتے ہو تو اس کی ضرورت ہنسی پہنچ آتی کہ اپنے پیروں سے کہو کہ چل بڑو۔ پاؤں خود بخدا ناطقہ ہیں اور تم چلنے لگتے ہو۔ اسی طرح ارادہ کرتے ہو کہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالیں تو ہاتھ فوراً آہی جیب میں پہنچ جاتا ہے اور ہاتھ کو یہ کہنے کی نوبت ہنسی آتی کہ جیب میں داخل ہو جا۔ پھر آنکھ کا کر شر دیکھو کہ جب تم کسی کی طرف لگاہہ ذائقہ کا ارادہ کرتے ہو تو انہیں خود بخدا اس طرف اٹھ جاتی ہیں۔ یہ ہنسی ہو گا کہ آنکھوں کو ایسا کرنے کے لئے کہنا پڑے۔ پس سارے کے سارے اعضائے جسم میں روح کی مختیت و ارادہ کی جس طرح کار فرمائی ہے وہ اس عالم موجودات میں ارادہ اہنی کے لفڑو کا چھوٹا سا منوں ہے۔

نفس ناطقہ کی قدرت۔

شیخ الرئیس بوعلی سینا نے اپنی کتاب الشفا، میں قوت کشش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ مقناطیں کی

حوالہ ماذی ناقص ہیں۔

بعض جاہلین کا بھائے ہے کہ جس پتیر کوہم اپنی آنکھوں سے ہنسی دیکھ سکتے اس پر کس طرح یقین کر لیں۔ اسی طرح مادئیں پہتے ہیں کہ انسان کے وجود میں گوشت و پوست کے سوا کچھ ہنسی دکھانی دیتا۔ پس نفس یارو حکے وجود کو کس طرح مان لیا جائے۔ میں اسی طرزِ استدلال کو بنیاد بنا کر کم عقل اور کافر لوگ صانع حقیقت یعنی حق تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر رہتے ہیں کہ جس خدا کو ہم دیکھ ہنسی سکتے اس پر کس طرزِ ایمان لائیں۔

اس قسم کی مخلالات بانیں بے شوری کا نتیجہ ہیں کہ ہر دو چیز جسے آنکھوں کے ذریعہ دیکھنا ممکن ہنسی اس سے انکار کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا دراک حصہ کے ذریعہ ممکن نہ ہو تو یہ حصہ کا نقص ہے یا اس سے یہ لازم آتی ہے کہ وہ چیزی موجود ہنسی۔

بے شمار اشیاء ایسی ہیں کہ ان کی لطافت کے باعث آنکھوں کو دیکھنے سے قادر ہے درآں حال یکہ ان کا وجود ہے۔

ہو اور برق مجھی مرئی ہنسی۔

کس کی مجال ہے کہ ہوا کے وجود سے انکار کر سکے۔ اگر ہوانہ ہو تو کون زندہ رہ سکتا ہے، ہوا کے بغیر ہر جاندار وہ گھٹ کر بلاک ہو جائے۔ لیکن چہاری آنکھ کیا ہوا کو دیکھ سکتی ہے، حالانکہ علوم طبیعتیات کی رو سے یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ ہوا کئی عناصر کا آمیزہ ہے جس میں آسکن اور پائیروجن شامل ہیں تم نہ تو ان عناصر کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہو اور نہ ان

بھلی کے تاروں میں سب کو علم ہے کہ برق دوڑتی رہتی ہے لیکن کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو۔ اور کیا اس سے انکار کر سکتے ہو، اس بنا پر کہ چہاری آنکھ اس کو دیکھنے پر قادر ہنسی،

محلول سے علت کا پتہ چلتا ہے۔

سارے موجودات عالم میں لطیف ترین شے عقل ہے۔ کسی کو بے عقل کہا جائے تو وہ بر امانتا ہے۔ لیکن یہ عقل کہا ہے، اور کس طرح اس کو دیکھا جا سکتا ہے، حالانکہ سب کو اس کا یقین ہے کہ عقل موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محلول سے علت کا پتہ چلتا ہے اور آثار کے ذریعہ موثر کا۔ کسی راستے پر اگر کسی سائیکل کے ناہر یا انسان کے پیروں کے نخان ہوں تو تم بھول پڑتے ہو کہ اس راستے پر سائیکل یا انسان کا گزر ہوا ہے۔

روح کی دوبارہ تخلیق۔

تمہارا نفس ایک مستقل وجود رکھتا ہے۔ سورا اور فعال جس کی بقاء اشد تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت کی تابع ہے۔

قرآن مجید میں روح کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ بدن سے علیحدہ چیز ہے۔ جناب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ۔

ثُمَّ انشَانَهُ خَلْقًا أَخْرَ.

(سورہ موسیٰ - آیت ۱۳)

اس کے بعد ہم دوسری مرتبہ تخلیق کرتے ہیں لیکن انسان کی تخلیق بھلے تو نظر سے ہوتی ہے پھر وہ علت یا جسے ہوتے خون کی شکل اختیار کرتا ہے بعد ازاں مضغ گوشت یا لو تمرا بن جاتا ہے اور آخر میں پورے بدن کی سمجھیں ہوتی ہے۔ اب اسکی دوبارہ تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں روح داخل ہوتی ہے۔ روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد بدن تو خاک کا پیدا ہونا جاتا ہے۔ گوشت پوست کا نام روح نہیں۔ گوشت پوست تو رعن میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حمل بھی ہو سکتا ہے اور اس میں خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا تجھے چاہئے کہ بدن کی اتنی فکر نہ کر۔ اصل فکر روح کی کرنی چاہئے۔ کیونکہ تیرا حقیقت وجود تو روح سے داہستہ ہے بلکہ روح ہی اصل وجود ہے۔ یہ بدن تو روح کی سواری ہے جسے وہ وسیلہ کے طور پر استعمال کرتی ہے۔

شحد از زندہ جاوید ہوتے ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتائے روح کے مسئلہ کو سمجھانے کے لئے ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کرو وہ زندہ ہیں اور اپنے پر دردگار کے ہاں سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں

وَلَا تَقُولُوا إِنْ يُعْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالَ
أَحْياءٍ وَلَكِنْ لَا تُشْعِرُونَ

(سورہ البقرۃ۔ آیت۔ ۱۵۳)

گویا ہوتا یہ ہے کہ روح اپنے مرکب لیکن سواری کو چھوڑ کر پیارہ اور مجرد

شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور امام جعفر صادقؑ کی تشریع کے مطابق قفس میں کرفتار شدہ یہ پرندہ قفس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ قفس لیکن بدن تو زیر خاک چلا جاتا ہے اور دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر روح کہاں جاتی ہے، یقیناً شاعر۔

فراز لکھرہ عرش میزند صفیر
ندامت کہ دنایں دامگ چ افتادہ است

بقاۓ روح

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جب کسی پر خدا کی رحمت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہچان لیتا ہے (رُحْمُ اللَّهِ إِمْرٌ عَرَفَ نَفْسَهُ) اور یہ جان لیتا ہے کہ اس کی خودی محض گوشت پوست نہیں اور یہ کہ وہ صرف ایک حیوان نہیں بلکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے جس کی بقاۃ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر محصر ہے۔ اور وہی روح ہے اور بدن جو اس کے زیر تصرف ہے پس ہر طرف روح ہی کی کار فرمائی ہے۔

روح کی یہ کار فرمائی جس کی صلاحیت اللہ رب العزت نے اس میں دعیت کی ہے خدا کی قدرت اور اس کی کار فرمائی کی مظہر ہے۔ انسان کے بدن میں قدرت الہی کے ظہور کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہمارا اپنا ارادہ ہمارے جسمانی حرکات پر نافذ الحمل رہتا ہے۔ گویا ہر شے میں اسی کا حکم جاری و ساری ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص کوئی سا کام کرے اس میں اسکے حکم اور مشیت کو دخل ہوتا ہے۔

حاصل ہوتا ہے اسے جل شاند جو ہماری روح اور بدن ہر دو کا خالق ہے اور کائنات کا کوئی واقعہ ہو بدرجہ اتم واکل اس کا علم ہو جاتا ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ نیز کائنات کے کسی گونہ میں بھی کوئی حادث روئنا ہو اس میں اس کے اذن اور مشیت کا داخل ہوتا ہے۔

حافظہ بھی نفس کے تجدی دلیل ہے۔

سب جانتے ہیں کہ روح مادی نہیں۔ لیکن انسان کے حافظہ کی قوت پر غور کرو کہ اداکل عمری سے وہ کچھ دیکھتا اور سنتا ہے یا محسوس کرتا ہے وہ اس کے حافظہ میں محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اسی کو حافظہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چلے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں جتنی باتیں کہیں اور سنی ہیں یا جتنی چیزوں دیکھی ہیں ان کا شمار کرے تو کچھ بات پڑھے کہ اسے سرسام کا مرض لاحق ہو جائے جی کہ تم اپنی ایک گھنٹے میں کی ہوئی ٹھنگو کو سپرد قرطاس کرنا چاہو تو کئے صفات بھر جائیں۔ اندازہ کرو کہ زندگی کی باتوں کو جو تم نے کئی ہوں یا زبان سے کہی ہوں قلببند کرنے کے لئے کتنی سخیم جلدیں درکار ہو گئی اور وہ کتنی جگہ گھیریں گے۔ کیا یہ بات باعث حرمت نہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا حافظہ بالائکف محفوظ کر لیتا ہے۔

درکات نفس میں باہم کوئی اختلاف نہیں۔

انسان کا یہ نفس ناطق بھی غیب شے ہے کہ اس کے متعدد اور اکات کے ماہین باہم کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں

عالم موجودات خدا ہی کا تخلیق کر دہے۔

تیرا یہ بدن تیری تخلیق ہنیں لیکن اس میں پھر بھی تیرا عمل و دخل ہوتا ہے اور عالم موجودات تو خدا ہی کی تخلیق ہے لہذا اس میں حکم خداوندی کا لفظ کیسے نہ ہو۔ خدا کے واحد کی ذات اقدس نے ارادہ کی اطاعت کائنات کا ایک ایک ذرہ بدرجہ اتم کرتا رہتا ہے۔ اور وہ ہر آن محدود کو موجود اور موجود کو محدود نیز مصل کو منفصل اور منفصل کو متصل کرتا رہتا ہے۔

السان کے اور اکات روح ہی کا کر شمسہ ہیں

بدن میں روح کی کافرمانی کی عزیز و صاحت کے لئے ہم مختلف مٹاویں کے ذریعہ یہ ثابت کریں گے کہ روح اور بدن دو ہماں مختلف چیزوں ہیں۔ یعنی روح کا اپنا وجود الگ ہے اور بدن اپنا الگ وجود رکھتا ہے۔

ہم یہ بھی ہی بیان کر سکتے ہیں کہ آنکھوں اور کانوں یا ہمارے حواس کے ذریعہ روح کا اور اک ممکن ہنیں جو اپنے وجود میں انتہائی لطیف شے ہے تاہم اس کے اثرات کا پتہ چالایا ممکن ہے۔

بدن میں روح کے اثرات ہی ہمارے اور اکات ہوتے ہیں۔ مثلاً تم راستے سے جا رہے ہو اور یہ کیا کیا ہمارے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھوکر لگ جاتی ہے یا پاؤں میں کوئی کانٹا ہجھ جاتا ہے تو فوراً ہی اس سے واقف ہو جاتے ہو۔ اسی طرح جسم کے ساتھ کوئی بھی حادث ہیش آئے روح کو فوری اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے روح کے علم کی بدن کے تعلق سے ہمارے اپنے علم کا گویا عین ذریعہ ہے جو ہمارے جسم کے ساتھ کسی حادث کے بارے میں تم کو

خوارزم شاہ کا نفسیاتی علاج۔

کہتے ہیں کہ سلطان خوارزم شاہ کو فانج کا عارضہ ہو گیا تھا۔ متعدد طبیب علاج کرتے کرتے عابر آنکھے تھے لیکن اس کا مرض جوں کا توں برقرار رہا۔ اس دور کے مسلم طبیب حکیم محمد بن ذکریار ازی تھے۔ بادشاہ نے انہیں بلوں بھیجا حکیم رازی جب پہنچنے تو اس وقت تک جو ادویہ استعمال کی جا رہی تھیں وہ ان کے سامنے پیش ہوئیں۔ رازی نے بھی اپنی سی دوائیں تجویز کر کے علاج شروع کر دیا لیکن بادشاہ کے مرض میں کوئی افاقت نہیں ہوا۔

طبیب رازی بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مرض کا علاج عام دواؤں سے ممکن نہیں اور اس کا صحیح علاج نفسیاتی طریقہ سے کیا جائے تو کارگر ہو سکے گا۔ رازی بوئے دانا حکیم و طبیب تھے انہوں نے نفسیاتی علاج شروع کر دیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ چلتے میرے لئے جان بخشی اور امان کی خاطر ایک حکم لکھ دیں کہ آپ کے علاج کی خاطر میں جو کچھ بھی کروں اس پر سیری گرفت نہ ہوگی اور سیری جان بخشی ہوگی۔ بادشاہ نے یہ امان نامہ لکھ دیا تو رازی نے ایک گرم حمام تیار کرنے کا حکم دیا جس کا درجہ حرارت طبیب رازی کے اختیار پر ہو۔ اس زمانہ کا دستور تھا کہ حمام کو خوب گرم رکھا جاتا تھا اور ہوا کے گزرنے کے لئے راستہ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ کو ننگ دھرنگ حالت میں حمام کے بیچوں پیچ گرم گرم ہتھوں پر بٹھا دیا گیا اور اسے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ نیز پانی کی حرارت بھی خوب تیز کرنے کے لئے مناسب اہتمام کر دیا گیا۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر اس روح فرساگری میں بادشاہ کے جوڑ چور کھل گئے اور ہڈیاں تک جلنے لگیں وہاں وہ یکہ وستہنا تھا اور مدد کے لئے کوئی موجود نہیں تھا۔

کہ کل میں نے کس شخص سے ملاقات کی تھی۔ اس کا جواب پانے کے لئے لامحالہ آپ کو اپنے ذہن کے خزانیٰ اور محفوظ سے رجوع کرنا پڑتا ہے چنانچہ آپ کا حافظہ جو آپ کی یادوں کا محفوظ اور یادوں کے سرمایہ کا خزانہ دار ہے قوی جس تجویز شروع کر دیتا ہے اور کھون لگا کر آپ کے موال کا جواب ہمیسا کر دیتا ہے۔ چچہ بات ضرور ہے کہ کسی کا حافظہ قوی ہوتا ہے۔ کسی کا کمودر۔ اسی طرح ہر شخص میں بھول جانے کا رجحان بھی کم و بیش ہوتا ہے۔ بعض لوگ جلد ہی کسی بات کو فراموش کر دیتے ہیں اور بعض لوگوں کے حافظہ میں وہی بات دیر تک محفوظ رہتی ہے۔

نفس کی وسعت اور اسکے بے شمار ادراکات۔

نفس کی وسعت اس قدر حیران کن ہے کہ اس میں بے شمار محسوسات و مدرکات = ب = نتھج ہوتے جاتے ہیں اور طرفة یہ کہ مادی طور پر یہ جگہ بھی نہیں گھیرتے۔ کیا اس بات کی یہ روشن دلیل نہیں کہ انسان محض مادی جسم کا نام نہیں۔

اس مفہوم کی وضاحت کے لئے میں دو حکایتیں بطور مثال پیش کر رہوں۔ ان حکایتوں سے خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ روح کی شناخت کیا ہے اور بدن میں اس کی کار فرمانی اور قدرت نافع کس حد تک حاوی ہے اور یہ کہ وہ بدن پر حکمران ہے نہ کہ بدن اس پر حکمران ہے۔

اس حالت میں طبیب رازی شگلی تلوار ہاتھ میں لئے تمام میں داخل ہوئے اور انہیلی فرش و ناز بنا گالیاں بکتے ہوئے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے۔ اے بادشاہ میں نے یہ سب کھیل اس لئے کھیلا تھا کہ مجھے یہ کہ وہ تھنا اور ہنما پاکر مار ڈالوں کیونکہ تو نے بڑے بڑے ظلم کئے ہیں۔ اب میں اس تلوار سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور یہ یہ کمکر بادشاہ پر حملہ کر دیا۔

خوارزم شاہ پر موت کا خوف طاری ہو گیا اور دو داشت کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور یہاں ایک اس نے حمام کے تالاب میں چھلانگ لگادی تاکہ رازی کے ہاتھ نہ آسکے۔

ایک قافی زدہ شخص جو عام روا یتی دواؤں سے صحت یاب ہو سکتا تھا اس کی شناور اصل روح کے علاج میں مضر تھی چنانچہ اس نفیاتی علاج سے اس کے اعضا، خود، بخود حرکت پذیر ہو گئے اور خوف دو داشت نے اس کے قوا کو بیدار کر دیا اور وہ احمد کھرا ہوا اور قافی کا اثر زائل ہو گیا۔

بادشاہ کے تالاب میں چھلانگ لگاتے ہی طبیب رازی تو وہاں سے رو چکر ہو گئے اور باہر آکر کھوڑے پر سوار ۔۔ جا۔ وہ جا۔ نظروں سے اچھل ہو گئے۔

خوارزم شاہ نے باہر آکر لباس نسب تن کیا اور رُکریارازی کو پیش کرنے کا حکم دیا لیکن اس کو بتایا گیا کہ وہ تو فرار ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو مکاش کر کے میرے حضور لے آؤ ہاکر انہیں انعام میں خلعت عطا کروں۔ لوگوں نے مکاش کر کے رازی کا پتہ چلا لیا۔ لیکن رازی نے کہا کہ خلعت سے میں ہاتھ دھوئا ہوں۔ مجھے تو ڈھبے کہ میں نے جو فرش گالیاں اور ناز بآہمات بادشاہ کی شان میں کہے تھے اس سے بادشاہ ہنوز ناراض بونا اور کہیں اس کی سزا بھیجنگئی شپڑے۔

لفیاتی علاج زیادہ موثر ہوتا ہے۔

اس حکایت کو بیان کرنے سے سیری غرض روح یا نفس کی قدرت کو اجاجر کرنا تھا۔ وہ اس قدر قوی ہوتی ہے کہ سارے بدن پر اس کی فعالیت حادی رہتی ہے اور اس کی فعالیت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بدن پر دوسرے تمام اثرات خواہ دواؤں کے ہوں یا کسی اور طرح کے ان سب پر غالب آجائی ہیں اور تیرپہ ہدف ثابت ہوتی ہے۔

لیکن یاد رہے کہ اس کے مخصوص اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے صحت مندو تصورت آدمی کو نفیاتی ملکین بیمار بنا دیگی اور احتمال د تو ازان کے بگاڑ کا سبب بن جائے گی۔

مجرموں کی سزا کے موت اور نفیاتی طریقہ۔

کہتے ہیں کہ دو ملزموں کو جرم ثابت ہونے پر موت کی سزادی گئی۔ اس سزا پر عمل کرنے کا جو طریقہ تجویز کیا گیا وہ یہ تھا کہ دونوں میں سے ایک کی آنکھوں پر پینی باندھی گئی اور دوسرے مجرم کو اس کے سامنے اس طرح بخایا گی کہ وہ اسے دیکھے کے۔ جس کی آنکھوں پر پینی باندھی گئی تھی اسے ایک نشرت چھو کر زخمی کر دیا گیا۔ زخم سے خون بہتار پاہتار ہاہپاہاں تک کہ جسم کا سارا خون بہہ کر خارج ہو گیا اور دو تین گھنٹوں کے اندر چل بس۔

دوسرा مجرم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں پر بھی پینی باندھ دی گئی اور نشرت جسم میں چھو نے کے بجائے اس طرح ہمرا ریا گیا کہ وہ بدن کو چھو تا رہے اور مجرم کو یہ حسوس ہو کہ اب اس کی باری

آنے والی ہے۔ وہ چونکہ اپنے ساتھی کا خرد یکھ چکا تھا اس لئے اس نے اپنے لئے سوچ پڑا۔ اس کا بھی کام تمام ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب اس کے جسم میں نظر چھو دیا گیا تو مشکل پانچ دس منٹ بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ وہ بجگ سے گپڑا اور اد عدم لی۔
لفسیاتی تلقین شفا بھی دے سکتی ہے اور بیمار بھی کر سکتی ہے۔

لفسیاتی تلقین کے موثر ہونے کا بہ جدید دور کے اطباء بھی اہمیت دیتے گئے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص اپنے آپ کو بیدار کھینچنے لگے تو خواب ایسے ہی دیکھنے کا گویا وہ نیمار ہے۔

اسی طرح صحت و تحدیر ستی کے پارے میں بھی تلقین موثر ثابت ہوتی ہے ہمہاں بحکم کہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو سانپ کاٹ لے اور جب تک اس کو شہ معلوم ہو کہ سانپ نے اس کو کڈا ہے اس کے بہتر ہونے کی امید باقی رہتی ہے اور جب اس کو علم ہو جائے تو سانپ کے زہر کا علاج قدرے مشکل ہو جاتا ہے خاید اس کی وجہ پر ہو کہ سانپ کے ٹسٹے کا خوف اور دہشت ہی اس کے دورانِ خون کو متاثر کر دیتا ہے اور اس طرح زہر جلد ہی دل بحکم پھنس جاتا ہے اور اپنا اثر کر جاتا ہے۔

ہم اور آپ بھی بدن یا جسم نہیں ہیں۔ یہ جسم تو ہمارے لئے سواری کا کام دیتے ہیں اور ہماری حقیقت کوئی ایسی شے نہیں جو بظاہر دکھائی دے کیونکہ وہ مادی نہیں۔ ہم اس کے اثرات سے وہ بچانی جا سکتی ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ جسم حرکت کرتا ہے۔ روح کی جو کار فرمائی ہمارے اجسام میں ہے اسی کا پرکشہ ہے کہ ہم حافظہ کی قوت کے مالک ہیں اور حافظہ روح کے تحریر اور اس

کی بقار پر شاپد ہے۔

روح کی کار فرمائیوں میں جسم کے اندر رونما ہونے والے دوسرے افعال مانع نہیں ہوتے۔

روح کی تحریر اور اس کی قدرت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جسم کے دوسرے افعال اس کی کار فرمائی میں مانع نہیں ہوتے۔ جب قدرت منہ میں بچنا ہے تو اس کی سماں کا ادارک روح کو ہوتا ہے۔ دانت اس کو چباتے ہیں تو ذائقہ کا ادارک بھی روح کو ہوتا ہے۔ تم باتیں بھی کرتے بستے ہو اور اسی حالت میں ہماری آنکھیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ کان اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور دانت بھی چبانے کا کام جاری رکھتے ہیں اور تم غذا کی لذت سے لطف انداز ہو رہے ہو تے ہو۔ باتیں بھی کئے جا رہے ہو اور ممکن ہے کہ اسی دوران اپنے حافظہ کی مدد سے تم سچنے اور کسی بات کے متعلق فکر کرنے میں بھی مشغول ہو جاؤ۔ مثال کے طور غذا ہی کے پارے میں کہ یہ خوراک تم کھا رہے ہو بہتر ہے یا وہ غذا جو تم نے بچلے کھائی تھی۔ چھریہ کہ اس غذا کے خواص کیا ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بدن اپنے فرائض کی انجام دی میں برابر ہنگام ہے۔ اس کی حس لامسہ اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ دل کے کام کی بجا آوری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہمارا نظام تنفس بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ قواۓ باطنی اور نظام سہنم بھی اپنے اپنے فرائض میں مشغول ہیں۔

سانس لینے کے لئے تبادل راستے مہیا کرنے میں بھی حکمت الحنی
پوشیدہ ہے۔

حکمت الحنی نے ہماری ضروریات کے پیش نظر سانس لینے کے دو
تبادل راستے مہیا کر دیے ہیں۔ یعنی طلاق کے راستے سانس لینا مشکل ہوا اور
منہ میں کھانے کا لفڑ موجود ہو تو ناک کے دو سوراخ تنفس کے نظام کو برقرار
رکھنے کا کام انجام دیتے ہیں۔ گویا نظام تنفس کو ایک فاضل پر زہ یا سورہ بھی
فرماہم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کھانے کا لفڑ منہ سے باہر نکالے بغیر سانس لینے
میں کوئی دشواری نہیں پیش آتی۔

نیز ناک کے دو سوراخ رکھنے میں بھی یہ حکمت کار فرمائے کہ اگر سردی
اور نور کے باعث ایک بند ہو جائے تو تبادل سوراخ موجود ہو جس سے
سانس لینا ممکن ہو۔

اسی طرح سونے میں جبکہ منہ بند رہتا ہے ناک ہی تنفس کے نظام کو
برقرار رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور اگر ناک کے دونوں سوراخ کی عارض کے
باعث بند ہو جائیں تو پھر منہ کے راستے تنفس کا عمل جاری رہتا ہے۔ خلاصہ
یہ کہ انسان کی جسمانی ساخت اس طرح کی گئی ہے کہ ایک وقت میں جسمانی
نظام کے سکڑوں کام ایک ساخت جاری رہتے ہیں۔ یہ قدرت خداوندی کی
حکمت بالغ ہے تاکہ انسان اس کی معرفت حاصل کر سکے۔

موت کے وقت قدرت الہی آشکار ہوتی ہے۔

اہل بستی کی مناجات اور دعائیں جو ہم تک پہنچنی ہیں حکمت سے

بھروسہ ہیں اور حقائق کا خزانہ ہیں تاکہ ہم ان کی برکات سے محفوظ رہیں
رسانی حاصل کر سکیں اور خدا کو ہمچان سکیں۔

مخلوق جو شن کریں یہ بھی یہ دعا نقل کی ہے جس کو توجہ کے ساتھ ہمیشہ
ورد کرنا چاہئے۔ پختہ صوص ماہ رمضان المبارک اور شب قدر کے موقعوں پر
اس دعا کی بڑی تاثیر ہے۔ اس مناجات کا ایک جملہ شخص یاد دلانے کی خاطر
درج کرتا ہوں کہ ”یامن فی النعمات قدرتہ“ جو شخص بھی خدا کی قدرت
کو بخچنا چاہے اسے اپنی موت کو بخولنا نہیں چاہئے بلکہ ہر وقت اس کو یاد رکھنا
چاہئے کیونکہ ہر شخص کو مرتبے وقت لازمی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ خدائی
قدرت کیا ہے۔

موت کے وقت ناتوانی۔

بعی انسان جو کسی وقت (۳۰) کیلو وزن تک بے کھکھ اٹھایا کرنا تھا اور
تقریر کرنے پر آتا تھا تو اس کی زبان ایک ایک گھنٹہ تقریر کرتے۔ تھکتی تھی
لیکن جب موت سر پر منڈلاتی ہے اور چاہتا ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ زبان سے
ادا کرے تو ناتوانی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ جیسے اس
کے سر پر کوئی بوجھ گپڑا ہو بقول شاعر۔

آنان کہ بیک زبان دو صد تھنی گھنٹو
آیا جہ شنیدند کہ خاموش شدند
رو بگورستان دے خاموش شن
آن تھن گویان خاموش را بین

یہ پا تھے جو مظالموں پر اٹھتے تھے اب یہ حال ہوا تھا ہے کہ منہ پر لکھی
یا پھر بیٹھ جائے تو ہاتھوں میں اتنی سکت بھی نہیں کہ اسے اڑا کے۔ گویا ہاتھ
اس کا کہنا نہیں ملتے اور زبان از کار رفتہ ہو چکی اور وہ پاؤں جوار اودھ کرتے ہی
مرکت میں آجائے تھے اب ساتھ نہیں دیتے۔ غریبکد کوئی صبور دن اب اس
کے حکم کے نامہ نہیں رہا۔ وہ صرف آرزو کر کے رہ جاتا ہے کہ کوئی تو اس کا کہنا
مان لے لیکن کسی پر اس کو تدرت نہیں۔

مرستے وقت معلوم ہوتا ہے کہ اس کو وقدرت اور طاقت حاصل تھی
وہ پرایا مال تحاب بوقت مرگ یہ معلوم ہوا کہ یہ قدرت و طاقت خدا کی دی
ہوئی تھی اور اب تک وہ جس زعم میں مبتلا تھا وہ محض خود فریض اور دھوکہ تھا
اس لئے انسان کو چاہئے کہ مال وزیر یا حکومت و سلطنت مل جائے تو غرور و غیر
سے کام نہ لے کیونکہ حق سلطنت یا حکومت کی کرسی انسان کو برخخت بنادیتی
ہے اور وہ کچھ بیٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کا اپنا ہے۔

ہملوں کا قبر سان جانا اور وزیر کو نصیحت کرنا۔

غلینہ ہادون الرشید کا وزیر ایک قبر سان سے گزر رہا تھا دیکھا کہ ہملوں
ہنہا قبروں کے درمیان یہ مخابو سیدہ بذریوں کو ادھر ادھر پھیلک رہا ہے۔ وزیر
نے پوچھا ہملوں کیا کرم ہے؟ اس نے جواب دیا کہ چاہتا ہوں کہ مردوں کو
الگ الگ گروں یعنی رئیسیوں کو ان کی رعایا سے اور وزیروں کو ان کے ماتحت
حاکموں سے علیحدہ کر دوں۔ ولیے تو ایک کاسرا درود سرے کا سر ایک سے ہیں
قبر میں پہنچ کر برابر ایک ہو گئے، میں۔

گویا ان الفاظ سے وزیر کو پندو نصیحت کرنا مقصر نہ ہوا۔

سَرِيْعُهُمْ أَيَّا تَنَافِي الْأَفَاقِ وَفِي اِنْفِسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَعْنَمَا اَنَّهُ اَلْحَقُّ اَوْ لَمْ يُكْفِ بِرِتْيَكَ اِنَّهُ عَلَىٰ مُكْلِ شَفَّىٰ ۝
شَجَنْدَ.

معارف نفس اور معرفت الہی کی تطبیق

حضرت اکرمؐ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
عَرَفَ رَبَّهُ" انسان کی آنکھ تو خدا کے دیدار کی اہل نہیں اور چونکہ دیکھنے سے
قامر رہتی ہے اسلئے اسکے وجود ہی سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ انسانی آنکھ جسم کے
ساتھ مربوط ہے اور جسم کا حال یہ ہے کہ وہ کثیف بھی ہے اور اس کا سایہ بھی
پوچھا ہماری آنکھ اپنی چڑیوں کو دیکھ سکتی ہے جن کا سایہ ہو اور جسم
رکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھا ہتھی اٹھیت ہے اہذا کے دیدار پر وہ قادر
نہیں۔

السان اپنی ہستی کو بھی مجھنے سے قاصر ہے۔

اس بیان کو پوری طرح عقل کی گرفت میں لانے کے لئے تم اپنے نفس پر غور کرو۔ کیا کوئی شخص خود اپنے نفس کے وجود سے انکار کر سکتا ہے۔ بجز اس کے کہ وہ ملدوں یا کام بیٹھنے ہو یا سو فطائی خیالات کا حامل ہو حالانکہ عقل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ نفس کا وجود ہے۔ لیکن کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو، تم تو صرف اپنے جسم ہی کو دیکھنے کے اہل ہو۔ اور تمہارا بدن یا جسم تو محض ایک سوراہی ہے۔ اور اس پر حکمرانی کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا جس کو کمال کی صرفت بھی ہے۔ جسم سے صرہ اور مجرد ہے اس کا جسم ہمیں اور اسی لئے ان ظاہری آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی ممکن نہیں۔ اس طرح اس نفس کی خالق جو ہستی ہے یعنی خدا تو اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔

آشاد اور نشانیوں کے ذریعہ معرفت نفس حاصل ہو سکتی ہے۔ جس طرح نفس کی ہیچان اس کے آشاد اور نشانیوں سے ہوتی ہے اسی طرح خلاق عالم کی صرفت بھی اس کی صفائی اور اس کے کمال قدرت کے منونوں کو دیکھرہی ممکن ہے۔ اس کی تخلیق کے جو آشاد و شوہد کائنات میں ہر طرف پائے جاتے ہیں انہیں سے اس کے وجود کا چیز چلتا ہے اور اس کا یقین ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کی صرفت حاصل ہوتی ہے۔

جسم انسانی کے اندر روح اور نفس کی کار فرمائی کا شہوت ہماری حرکات و سلکات نقط و نکام اور اسی طرح جسم کے دوسرے افعال و کار کروگی ہی کو دیکھر حاصل ہوتا ہے کیونکہ اگر روح اور نفس موجود ہو تو یہ جسم خاکی محض جامد ہستی کے سوا کچھ بھی نہیں۔

خدا کے بورگ و رترکی آیات اور نشانیاں تو پوری کائنات میں موجود ہیں اور سب اس کی ہستی اس کے علم اور اس کی قدرت و حکمت پر شاہد ہیں۔

نفس مجرد مکان کا محتاج نہیں۔

پس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و آله وسلم "مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ" کی تشریع کے تعلق سے یہ بات ذہن نہیں ہوئی چاہئے کہ جسم تو مکان اور جگہ کا محتاج ہے اور اس کے اندر جس کا قبضہ ہے یعنی نفس وہ مکان اور جگہ سے بے نیاز ہے۔ خداوند عالم بھی مکان کا محتاج نہیں کیونکہ وہ لا مکان ہے۔ کیا کوئی بات سکتا ہے کہ خدا کہاں ہے؟ عرش پر یا آسمان پر؟ اور پر یا نیچے؟ یہ سب کچھ محض قلن و گمان اور قیاس ہو گا۔ اگر ایسا خیال کریں۔ پس ثابت ہوا کہ جسم تو مکان کا محتاج ہے اور اس کا خالق مکان سے بے نیاز ہے۔ یعنی مجرد شے کو مکان کی حاجت نہیں ہوئی۔

امیر المؤمنین کا ارشاد ہے کہ "أَيْنَ الْأَيْنُ فَلَا يَقَعُ لَهُ الْأَيْنُ" کیونکہ وہ تو مکان آفرین اور مکان کا خالق ہے اس لئے اس کے ساتھ مکان کوئی نسبت نہیں رکھتا اور مکان سے اسے دلچسپی نہیں۔ ارض و سما بھی اسی نے پیدا کئے ہیں لہذا آسمان و زمین کو اس کا مکان کسی طرح ہر سکتے ہیں۔ اسی نے عرش کی تخلیق کی ہے پس یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ عرش کو اپنا مکان بنائے ہوئے ہے اپنی اس بات کا شہوت کہ خدا الامکان ہے خود ہماری اپنی جانوں کے اندر موجود ہے ہماری جان اس کی شہادت بھی دے رہی ہے اور اس طرح ہمارے اپنے جسموں کے اندر جاری و ساری ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ ہماری جان کہاں ہے، تو اس کا جواب ہے۔ سر سے پاؤں کی انگلیوں تک

جہاں بھی چاہو محسوس کر سکتے ہو کہ جہادی جان ہمیں ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے نیز یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جہادی جان جسم کے کسی حصہ میں بھی موجود ہنہیں کیونکہ یہ بے معنی بات ہوگی، ہم یہ تو ہمیں کہہ سکتے ہے کہ بدن ہی روح ہے اور وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس یا روح بدن سے الگ کوئی ہیز ہے۔

”يَامَنْ لَا يَحْوِيهِ مَكَانٌ وَلَا يَحْلُمُ مِنْهُ مَكَانٌ“

یعنی خدا وہ ہے جو مکان تو نہیں رکھتا لیکن کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے خالی ہو اور وہاں وہ موجود نہ ہو۔

جان تو وہ ہے جو ہماری ذات اور جسم سے جدا نہیں۔

چنانچہ ہماری جان، ہماری اپنی ذات سے الگ نہیں۔ وہ اپنی اصل میں مجرد تو ہے لیکن پورے بدن پر محیط ہے۔ بظاہر بھی اور بہ باطن بھی وہ سارے جسم کو اپنے تصرف میں لے ہوئے اور ایسا نہیں کہ جسم کے کسی عاص مقام پر اس کا وجود ہو۔ وہ تو جسم کے ہر ہر حصہ کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہے اور اس میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ وہ مکان سے بے نیاز تو ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے اس کا سایہ تک نہیں ہوتا پھر بھی جسم کا کوئی حصہ اس سے خالی نہیں۔

عضو یا جان تو مفلوج یا مردہ ہی ہوتا ہے۔

”الاَنَّهُ يُكَلِّ شَنِيدُ مُحْيِيَّا“۔ اللہ رب العزت ہر جیز کا احاطہ کئے ہے تاہم اس کے لئے مکان یا جگہ گھیرنے کا تصور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اپنی ہی جان پر غور کرو تو تم پر روشن ہو جائے گا۔ کہ وہ کسی مکان اور محل میں

مقید ہنہیں۔ وہ تو جہادے جسم میں سر جا پا موجود ہے اور اگر یہ بات نہ ہو تو جہاد اجسم یا تو مفلوج ہو جائے یا مردہ کیونکہ اس میں جان باقی نہ رہتی۔ لیں مکان یعنی بدن کا نام روح نہیں لیکن روح بدن سے جدا بھی نہیں۔ کامات کی کوئی شیئے اور موجودات عالم میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خدا وہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی جگہ اور کوئی شے خدا کے وجود سے خانی نہیں۔ تم جو حضرت بھی جاؤ وہاں خدا ہے۔ تم جہاں بھی ہو خدا جہادے ساتھ ہے

”وَمَوْمَعْكُمْ أَيْتَ سَأْكُنْ“

(سورہ حدیث آت ۳)

اب سوال یہ ہے کہ خدا کا کوئی مکان نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں جگہ موجود ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے جہادی بدن جہادے جسم کے اندر ہے۔

نفس کی حقیقت سب سے پوشیدہ ہے۔

پس متنزکہ بالا وجہ کی بنا پر یہ ثابت ہو گیا کہ نفس انسانی کا صرف اس کے آثار اور کار فرمائیوں تی سے پہلے سکتا ہے ورنہ اس کی حقیقت تک ہیچچا محال ہے اور آج تک کسی شخص کی رسائی اس کی حقیقت تک نہ ہو سکی۔

”وَلَيَسْتُنْلُوكَ عَنِ الرُّوحِ سَقْلِيلًا تُجْهَى“

(سورہ بنی اسرائیل آت ۸۵)

آخر آدمی کی جان ہے کیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا اور نہ متوز نفس کی حقیقت سے کوئی باخبر ہو سکا ہے۔ محض ہم نے کار فرمائیوں سے اس کا علم ہو جاتا ہے کہ جہادے بدن کے اندر اس کے ہونے یاد ہونے سے کیا کچھ رونما ہو گا۔

بالکل اسی طرح ذات الہی کا علم بھی کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اے آدم خاک جبکہ تو اپنی ہی ذات اور اپنے آپ کو پہچاننے کی قدرت نہیں رکھتا پھر کیسے چاہتا ہے کہ خدا کی ذات کی صرفت تجھ کو حاصل ہو اور اس کی حقیقت کا احاطہ کر سکے جسیکہ مخلوقات الحی کی ایک مخلوق ملک الموت یعنی عرباً نسلیں ہی کے کام بھک سے تو واقف نہیں ہو سکتا کہ وہ کس طرح تیری روح قبض کرتا ہے۔ کس طرف سے آتا ہے اور کس طرف سے تیری جان لکاتا ہے۔

عرباً نسلیں کے لئے پورا کرہ ارض ایک دستِ خوان کی مانند ہے۔

روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات عرباً نسلیں سے دریافت فرمایا کہ تم ایک ہی وقت میں دو آدمیوں کی جان کیجیے تکلتے ہو جبکہ ایک مشرق میں ہو اور دو سرا منزب میں۔

عرباً نسلیں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت بخشی ہے کہ پورا کرہ ارض سریے لئے ایک دستِ خوان بنادیا ہے اور آن واحد میں دو ہدایات عالم کی روح قبض کرنے پر مجھے قادر کر دیا ہے۔

جو کچھ اوپر بیان کیا گیا اسی کے مطابق ذات الحی کے پارے میں نلم و گمان بھی حرام ہے کیونکہ اس کا اور اک محل اور ناممکن ہے۔ اور ہمارے لئے ہوائے حریت کے چارہ نہیں۔ یہ مخلوقات کے حریط دامتہ میں نہیں کر وہ غالق کا احاطہ کر سکے۔ اس کی قدرت اور کمالات اور اس کی مخلوقات و دیکھ کر نیتی اس کے وجود پر ایمان کے راستے کی جانب رہبری ہوتی ہے اور انسان کی طاقت میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ اس کی ذات کے بدلے میں خود فکر کرنے لگے اور اس کی حقیقت تک رسائی کا خواہاں ہو۔

روح کی وحدت خدائے عدو جل کی وحدت پر دال ہے۔

وحدت اپنے فاعل کی وحدت پر دلالت کرتی ہے کہ اس پورے کارخانہ ہستی پر حکمرانی اور اس کا انتظام و انصرام ایک ہی مقدار ذات کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لاکھوں مخلوقات کی تقدیر بدلنے میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پس اسی طرح روح بھی سینکڑوں کام انجام دیتی ہے لیکن وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اور روح کی یہ وحدت اپنے اظہار کے تمام طریقوں سے اس جہاں ہستی میں خداوند قدوس کی وحدت ہی کا پتہ دیتی ہے اور کیا خوب سپتے دیتی ہے کہ اس کارخانے عالم کے انتظام کو چلانے والی اور سارے امور کی مدد کو نہیں ذات ہے چہ جائید فرمایا "مُدَبِّرُ الْأَمْرِ" الجہاد ہر چیز میں اور بڑا کام جزوی ہو کہ کلی اسی کے قدرت میں ہے جس طرح تہذیب جسم کے اسکا ایک ایک موئے بدن اور ایک ایک عضو تہذیب روح کے زیر فرمان ہے۔ مثلاً تہذیبے فلاں دانت میں درد ہے یا ہمارے پاؤں میں کوئی کائنات چبھ جاتا ہے تو تمہیں فوری اس کا احساس ہو جاتا ہے اور تم اس دانت کے ملاج کی عمر بیر کرتے ہو یا اس کائشو کو لکال باہر پھینکتے ہو۔

روح اپنے سینکڑوں و ظائف کے باوجود ایک ہی ہے۔

جس طرح ایک ہی روح جسم انسانی کے مدد کی حیثیت میں سینکڑوں کام انجام دیتی ہے اسی طرح موجودات عالم کا مدد بھی اپنی بے انہتا قدرتوں اور کمالات کے ساتھ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"۔ خلاصہ اس ساری لفظ کا یہ ہوا کہ ہر آدمی کے نفس کی حقیقت سے شناسائی تو ممکن نہیں چہ جائیگ کہ ذات خداوندی کی حقیقت کا عرفان ہو سکے۔ ہم صرف اس کی قدرت

ہیں۔ ہمارے کان جو سننے کی طاقت رکھتے تھے اب اس کے اہل نہیں ہے۔
تو سچے یہ چاکر دیکھنے یا سننے کی صلاحیت آنکھ اور کان کی اپنی نہ تھی۔
اسی طرح گویا بھی زبان کی ذاتی صلاحیت نہیں جو زبان موت سے
چھٹے تھی وہی باقی ہے لیکن مرنے کے بعد وہ اپنی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ کیونکہ
گویا بھی تو ہماری روح کے ساتھ قائم تھی۔
انسانی جسم کے اندر جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے وہ سب روح اور جان کے
وجود پر شاہد ہے ہر چند کہ اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے اور نہ اس بات کا
عرفان ہمیں حاصل ہے کہ وہ وجود کے کس مرتبہ کی حاصل ہے۔ وہ جسم کے
 مقابلہ میں مجرد تھے لیکن یہ عجیب طرح کا وجود ہے گویا ایک ہر راغب ہے جس
سے بدن کو روشنی ملتی رہتی ہے اور جسم کے سارے افعال و وظائف انجام
پاتے ہیں لیکن جوں ہی وہ بدن سے جدا ہو جائے تو محی بدن ایک ہتھ اور کسی
سو کھی لکڑی کے مابین فرق کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔

بدن کے واسطے کے بغیر روح کے افعال۔

اب تک جو کچھ ہم نے بیان کیا وہ ان افعال کے بدلے میں تھا جنہیں
روح بدن کے ذریعے سے انجام دیتی ہے۔ لیکن اس کی کافر فرمائی کی ایک اور
قسم ہے جس میں بدن کے ساتھ تعلق نہ ہوت جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قوی
والاکل پیش کئے جاسکتے ہیں اور اب جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ امام جعفر
صادقؑ کے فرمودات سے استفادہ کا حاصل ہے کہ امام موصوف نے کس طرح
استدلال کے ذریعہ روح کا مجرد ہوتا ثابت کر کے اور ہندوستان کے ایک
شخص کو قاتل کر دیا تھا۔
ماہ پرست بزم خود پر خیال کرتے ہیں کہ انسان محض گوشت و پوست

اور کبریائی کے کمالات دیکھ کر ہی اس کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی
دیتے ہیں اور اشحد ان لا الہ الا اللہ پختے ہیں گویا خدا کو ہم نہیں دیکھ سکتے
صرف اس کے کاموں کو دیکھتے اور انہی کو دیکھ کر اپنے اپنے علم و صلاحیت کے
مطابق اس کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ تم اپنی بجان
یاروں کو تو نہیں دیکھ سکتے تاہم اس کے کاموں پر ہماری لظر ہوتی ہے۔

السان کے جسم میں روح کے کام۔

روح کے افعال کی ایک قسم وہ ہے جو ہمارے جسم کے اندر روما
ہوتے ہیں اور ان افعال کی ایک دوسری قسم بھی ہے جنہیں وہ بدن کے
واسطے کے بغیر اور اس سے جدا ہ کر بھی انجام دیتی ہے۔

جن کاموں کا بدن سے تعلق ہے ان میں ہمارے حواس، لاسر، باصرہ،
سامنہ، شامسہ اور ذائقہ شامل ہیں۔ ہاضم کے نظام کا بھی اسی میں شمار ہوتا ہے
جان نکل جائے اور ہر راغب روشن بخجھ چائے تو پھر ہماری آنکھیں بینائی سے
محروم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ہماری آنکھیں اور سراپی جگہ باقی رہتے ہیں۔ اسی
طرح جسم سے جان نکل جائے تو ہمارے حواس جواب دیتے ہیں حالانکہ
سارے اعضا موجود رہتے ہیں۔

موت بھی روح کی کارکردگی کی اک نشانی ہے۔

جیسا کہ ہم نے ابھی ابھی دیکھا کہ موت ہماری زندگی اور روح کی
کارکردگی پر شاہد ہے۔ بدن کی یہ صلاحیت کہ سراپی جگہ تو موجود ہے لیکن
تموزی دیر قبل ہی ہماری آنکھیں دیکھ سکتی تھیں اب دیکھنے سے قادر ہو جاتی

کا نام ہے در انحصارِ الہیات کی رو سے یہ گوشت و پست اور یہ بدن روح کے
وسائل ہیں جن سے وہ کام لیتی ہے۔

خواب کے دوران روح کے کام۔

امام جعفر صادقؑ نے اس ہندی خاد کے سامنے چند مثالیں بیان فرمائی
تھیں جن میں سے ایک یہ ہے۔
مکا بھی تو نے دیکھا کہ خواب میں تم رو رہے ہو یا انہیں رہے ہو۔
اس نے جواب دیا۔ ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے۔
پھر آپ نے پوچھا۔

خواب میں کبھی خوبصورت یا خوفناک تہرے دیکھے ہیں؟
اس نے وہی جواب دیا کہ بکثرت۔
آپ نے دریافت کیا۔

کیا خواب میں تم نے کبھی لنسز غذا کھائی ہے، جس کی خوبصورت نے زندگی
بھر ہنسیں سو نگھی تھی؟

اسکا جواب وہی تھا کہ جی ہاں بسا اوقات ایسا ہوا ہے۔

امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا کہ بہت خوب۔ لیکن کبھی تم نے اس پر خور کیا
کہ وہ کون ہے جو رو تاہے یا ہاتاہے؟ اور خوبصورت یا خوفناک صور تیں کس کو
دکھائی دیتی ہیں جن سے تم مسرور یا محروم ہوتے ہو، یا وہ کس کی شخصیت ہے
جو لذت بخش غذاوں سے لطف اندوڑ ہوتی ہے؟ کیا یہ تہارا جسم ہے، جس کا
ایک نکڑا الگ ہو کر آنکھ یا زبان یا مسنہ بن جاتا ہے؟

احلام روح کے عمل کی ایک اور مثال ہے۔

اس ہندی خاد نے یہ سب سن کر ایک طفلash بات کہدی کہ خواب تو
پریشان خیالی کا نتیجہ ہوتا ہے اور سراب سے بوجھ کر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
آدمی جب بیدار ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس نے دیکھا ہے اس کے اثرات باقی نہیں
بہتے۔

امام نے جواب دیا۔

کیا تم نے کبھی خواب میں دیکھا کہ تہاری شادی ہو رہی ہے، اس نے
جواب دیا۔ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر بیدار ہونے کے بعد تم نے احلام
کے اثرات نہیں دیکھئے، آپ نے پوچھا کہ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟
آپ نے اس کو کھانے کے لئے فرمایا۔

آدمی کی ذات کے اندر حواس کے توسط سے جو کچھ پیش آتا ہے روح کے
اندر بھی وہ سب کچھ واقع ہو سکتا ہے۔ عالم بیداری میں جس طرح تہاری بھیانی
سماحت، اور گویاں کے افعال میں روح کا عمل داخل ہوتا ہے ان ہی کا منہودہ وہ
تمہیں خواب میں بھی دکھان سکتی ہے اور مکاشفات میں بھی۔

رویائے صادقہ روح کی قدرت کا عجیب نمونہ ہیں۔

روح آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی مشاہدہ کر سکتی ہے یعنی اگر
ایک سال بعد کوئی واقعہ پیش آنے والا ہو تو روح اس کے مشاہدہ پر قادر ہے
اور خواب میں اس کا دراک ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روح ہی تقدیر
ہے جو لوحن محفوظ میں موجود ہے اور روح ہی اس کا دراک کر رہی ہے۔

تم خواب میں بہت ساری ایسی باتوں کا مشاہدہ کرتے ہو کہ اس مادی دنیا سے الگ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مادہ میں شعور تو ہوتا ہے اور ہزاروں ایش بھی یہ جمیع ہو جائیں تب بھی ان میں شعور کا پیدا ہونا ممکن نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ شعور مادہ کی ہیزی نہیں۔ ہاں انسان کی روح ایسی باتوں کو سمجھنے پر قادر ہے جن کا مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

اس دھوے کی تصدیق ہزاروں طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ کم ہی ایسے لوگ ہو گئے جو عالم رویا کی باتوں کا غہووم بھجو سکیں جن سے نفس اور روح کے مجرد ہونے کا ثبوت ہمیا ہوتا ہے۔ ایسے شوہد بے شمار ہیں اور ان سب کا احاطہ ہم ممکن نہیں۔ ہم اس شرکے مصدق کر۔

آپ دنیا را اگر نتوان کشید
ہم بقدر تسلی باید چیز

ایک حکایت منود کے طور پر ہمہاں بیان کرتا ہوں تاکہ میرا مطلب واضح ہو جائے یعنی یہ کہ روح مادہ سے مادر اکسی اور عالم کی شستے ہے اور وہیں سے وہ بہت سی ہیزوں کا ادراک بھی کر سکتی ہے۔

نادر شاہ کے عجیب خواب

ایران کے قبلہ افشار کے نادر شاہ کے بارے میں کہب تواریخ میں قصہ درج ہے کہ جب وہ اپنی آخر عمر کو ہمچنان تو اس کی نیند ناٹب ہو گئی۔ راتوں کو وہ باہر نکل کر چهل قدمی کرتا اور بستر پر لوٹ آتا لیکن نیند آنے کا نام نہ لیتا۔ عمر کے اس حصہ میں وہ خاصا بد مزاج بھی ہو گیا تھا اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس

سے دریافت کر سکے کہ وہ رات بھر کیوں نہیں سویا۔ صرف حسن علی معین الملائک نامی ایک سردار تھا جو نادر شاہ کا خاص معاشر تھا نادر شاہ اپنے اسرار و رموز اس کے سامنے بیان کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک رات برات وہ مت سے کام لیکر نادر شاہ سے پوچھ ہی لیا کہ آخر آپ کو ایسی کوئی فکر لاحق ہوئی تھی کہ رات آپ نے آرام نہیں کیا۔

نادر شاہ نے جواب میں کہا کہ میں تم کو بتائے دھماں ہوں لیکن اس تاکید کے ساتھ کہ تم اس کا کسی اور سے ذکر نہ کرو گے۔ پھر کہنے لگا کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے عروج اور میری سلطنت کے قیام و احکام سے قبل ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ دو ملازم بڑی عربت و احترام سے مجھے ایک محل میں لے گئے وہاں بارہہ امام تشریف فرماتے جن کے نور سے سدا محل منور ہو رہا تھا۔ ان بڑوں کے آتا میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا کہ ہم ہتھارے لئے ایک تواریلائے ہیں اور اس تلوار کو انہوں نے میری کمرے باندھ دیا پھر ارشاد فرمایا کہ ہم ہمیں ایران کی اصلاح کے لئے روانہ کر رہے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔

دوسرے ہی دن سے میں نے حکم کی تعمیل میں اپنی تیاری شروع کر دی یہاں تک کہ ایران کی سلطنت سب میری رسائی ہو گئی اور میں نے ہندوستان بھی فتح کر لیا اور اس کے علاوہ بھی متعدد فتوحات میرے نصیب میں آئیں اور میں نے نک کے نظم و نسق کی اصلاح اور اس کے احکام کی طرف توجہ کی۔

(لیکن آخر کار اس کا رویہ اور چال چلن انتہائی نازب ہو گیا۔ قتل و نارت گری اس کا شعار بن گیا اور اس نے بے شمار بے گناہوں کا خون اپنی

گردن پر لے لیا)

مشیر چمن لی گئی۔

نادر شاہ اپنی افتادہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آج رات پھر میں نے ایک خواب دیکھا وہی خدام جو بچتے بڑی محبت را حرام سے مجھے لے گئے تھے۔ اب ہنایت ہی ہے دردی سے میری پناہی کر رہے تھے اور اسی حالت میں گھمیستہ ہوئے مجھے انہی آقاوں کے رو رو پیش کر دیا جنہوں نے میری کمرے تلوار آفلاں کی تھی۔ جب مجھے انکی صدمت میں حاضر کر دیا گیا تو انہوں نے اس مرتبہ بڑی درشتی اور سند کلائی سے کامیابی ہوتے فرمایا کہ کیا تیرے لئے یہ نسب درتائے کہ مسلمانوں سے اس طرح کا سلوک کرے جیسا کہ تو نے کیا ہے؟ وہ تلوار اب ہمارے حوالے کر دو۔ یہ لکھرا ہوں نے میری کمرے تلوار کھول لی اور مجھے دلکھے دیکھ رہا ہے نکلا دیا۔

غرضیکہ اسی خواب کی بدولت میں اس دھشت میں بیٹا ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن اسے قتل کر دیا گیا اور جس محل کو اس نے اپنی رہائش کے لئے آرائی کیا تھا اس کی لاش وہیں ہیچنگائی گئی۔ بقول شاعر

مرشب سر قتل و تاراج داشت
حرگز نہ تن سر تاراج داشت

یہ اس کی انہتائی بد بختی تھی کہ جنہوں نے اسے اتنی رفتہ و بلندی عطا کی تھی انہی کے ہاتھوں اسے ذلت و خواری کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس خواب

سے ہر نفس کے مجرد ہونے کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟

لعمت اور عقوبت ہر شخص کے لپنے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے۔

کسی کو مال و دولت اور جاہ و سلطنت سے نواز گیا ہے تو اسکی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی خوبی یا اس کی ابیت ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جاہ و سلطنت مخفی آزمائش ہے۔ چنانچہ یہ سب کچھ مل جانے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے وہ نعمت ثابت ہوتے ہیں یا عقوبت کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر اس سلطنت، اس جاہ و جلال اور مال و دولت کے بعد وہ عدل و احسان سے کام لے تو اس کے لئے نعمت ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف عمل کرے گا تو یہ سب کچھ اس کے لئے بلا کے بے درمان اور زحمت کا باعث بن جائے گا۔

پس کسی پر العالم و اکرام کی بارش ہو تو اس کے گناہوں میں مزید اضافہ کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی اصلاحیت محل کر سامنے آ جاتی ہے۔ کیونکہ امتحان و آزمائش مرحلہ دار ہوتا ہے۔

مال و دولت اور اقتدار و حکومت امتحان و آزمائش کا ذریعہ ہیں۔

چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یہ خیال نہ کرو کہ کسی کافر کو ہم اگر ہملت دیتے ہیں تو یہ اسکے لئے نفع بخش ہے بلکہ ہم اس لئے ہملت دیتے ہیں کہ وہ اور زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرے اور ہمارے عذاب کا زیادہ سزاوار بن جائے۔

وَلَا يَحْسِنُ الظَّالِمُونَ كَفَرُوا أَنَّمَا تُمْلَىٰ لَهُمْ خَيْرٌ
إِنْفِسِهِمْ إِنْتَأْتُمْ بِهِ لَهُمْ لِيَزِدَادُوا آثِمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
شُعْبِينَ؟

(آل عمران آیت ۸۶)

ہم کسی کو مال و نر اور جاہ و احتدار اس لئے دیتے ہیں کہ اس کا امتحان اور اسکی آزمائش مقصود ہوتی ہے تاکہ اس کی شفاقت یا سعادت ظاہر ہو جائے۔ اس حکایت کے بیان کرنے سے ہماری غرض و غارت یہ تھی کہ یہ بتایا جائے کہ گوشت و پوست کو اس قسم کی باتوں سے کیا کام اور یہ کہ بدن یا جسم ان کا مطلب کس طرح بھی سکتا ہے۔ نادر سادہ کی سلطنت تو ولی کے حکمر کے ساتھ والست تھی۔ اگر امام نہ پڑھتے تو ایسا نہ ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ اس قسم کی خربوں کا تعلق نفس سے ہے نہ کہ بدن سے۔

علیٰ خواب میں ایک ناصی کا سرتان سے جدا کر دیتے ہیں۔

اب ہم ہمارا علیٰ کا ایک صحبوہ بیان کریں گے۔ قطب راوندی نے ایک راوی کے خواہ سے روایت ہے کہ اس نے موصل سے کے معظلم جانے کا ارادہ کیا تو احمد بن حمدون کے گھر گیا جو موصل کا امیر بزرگ اور اعیان و اشراف میں سے تھا لیکن علیٰ کا خخت دشمن تھا۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ اس کا ہمسایہ تھا اس لئے حق ہمسایگی کا لالاط کرتے ہوئے اس کو خدا حافظ ہٹنے کے لئے گیا تھا اور اس سے دریافت کیا کہ اس کی کوئی خواہش یا فرمائش ہو تو بیان کرے تاکہ اس کو پورا کر دے۔ یہ سن کر احمد بن حمدون اندر گیا اور قرآن مجید لا کر اس سے مخطوب ہوا کہ۔

تم اس قرآن کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ جو میں ہوں گا اس پر عمل کرو گے۔ اس نے جواب دیا کہ اگر اس کے بس میں ہو تو ضرور کرے گا۔

احمد بن حمدون نے کہا کہ

روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب حاضری دو تو سربانے کھرے ہو کر عرض کرنا کہ یہ کیسا قحط الرجال تھا کہ فاطر علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا جن کے سر پر یاں تک نہیں اور جن کا پہیت باہر کی طرف نکلا ہوا تھا وغیرہ۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے تو یہ پیغام بخلا دیا تھا لیکن آخری دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یکایک مجھے یاد آگیا اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں لیکن اس نے مجھے قسم دے رکھی ہے اس لئے عرض کر رہا ہوں۔

اسی رات میں نے علی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ راوی کو پہنچنے، ہمراہ لیکر موصل میں احمد بن حمدون کے گھر پہنچنے۔ احمد سورہ تھا۔ آپ نے اس کا لحاف اس کے اوپر سے ہٹا دیا اور ایک خیر سے جو آپ کے ہاتھ میں تھا اس کا گلا کاٹ دیا اور اس کا مخصوص سرتان سے جدا کر دیا۔ پھر لحاف سے خیر کا خون صاف کیا جس سے لحاف پر خون کی سرخ رنگ کی رھاری سی بن گئی پھر دست مبارک سے مکان کی چھت کو اٹھا کر دروازے ایک گوشہ میں خون الود خبر کو رکھ دیا۔

راوی آگے چل کر کہتا ہے کہ میں اس وختناک خواب سے گھبرا کر اٹھ یہ تھا اور اپنے ساتھیوں سے خواب کی پوری سرگزشت بیان کر دی کہ میں نے ایسا وختناک خواب دیکھا ہے اور اس دن جو تاریخ تھی وہ بھی میں نے نوٹ

بے شور مادہ کو اور اک محروم سے کیا واسطہ ۴

غرضیکہ انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے بعد میں ویسا ہی واقع ہو جاتا ہے تو یہ روح کی کار فرمائی ہے۔ بدن کو جو گوشت پوست کا بناء ہو اے اس طرح کے اور اکات سے کیا واسطہ کیونکہ بدن تو مادی ہے اور مادہ بے شور ہذا اس میں یہ کتاب کہاں کر آنے والے واقعات کا مخابدہ کر سکے اور انہیں سمجھ سکے۔ حاجی نوری مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا موضوع روایاتے صادق ہے۔ اس میں ایسے خوابوں کا بھی ذکر ہے جن کی حیثیت روح کے بدن سے جدا ہونے کے بعد روح کی کار فرمائی سے ہے۔ کیا یہ تعجب کی بات ہنیں کہ مستقبل کے واقعات جنہیں ملائکہ اور عالم ملکوت یہی کو خبر ہو سکتی ہے روح جزوی یا کلی طور پر اس کا اور اک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اپنی خودی اور ذات کو پانے کی فکر کرو۔

اس پوری بحث کا تلاص یہ ہے کہ انسان اپنی خودی اور ذات کی فکر کرے اور اپنی روح کو پانے کے لئے کوشش رہے۔ یہ بات جو زبانِ زد عوام ہے بڑی معنوں کی حامل ہے کہ ”جنوتو برس۔ یعنی اپنے آپ تک یا اپنی خودی تک پہنچو۔ لیکن ہم سے لوگوں کو اس کے اصل مفہوم تک رسائی ہمیں ہوتی وہ بخیال خویش بدن تک پہنچنے کی فکر میں ہستے ہیں اس لئے کہ جیوان جو نہ ہرے۔

”جنوتو برس۔“ کا مطلب ہے اپنی ذات اپنی خودی اور اپنی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا۔ کیونکہ تیری تھیمت اور تیرا وجودِ محض بدن اور گوشت پوست کا نام ہمیں۔ ہذا اپنے آپ کو پانے کی فکر کرنا ہکہ کل کو اولیا، اللہ کے ہاں پہنچنے کا راستہ مل جائے ورنہ خواہ اپنے بدن کو کتنی ہی نرق بر ق

زملی۔

پھر جب وہ موصل واپس ہوا تو معلوم ہوا کہ لیقید فلاں رات اس کا قتل اسی طرح واقع ہوا تھا لیکن اس کے قاتل کا پتہ نہ چل۔ کاکہ کون تھا چور تھا ہمیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی اور کوئی ہیز چوری بھی ہمیں ہوئی۔ سب کے لئے حیرانی کا باعث تھی۔ موصل کی حکومت نے سارے مسنتین کو نقصانی کے لئے لظر بند کر رکھا ہے تاکہ قاتل کا پتہ معلوم ہو لیں مسز اس کا پتہ ہمیں چل سکا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے ہم مفر ساتھیوں سے ہماکہ ٹپو حاکم موصل کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان ملنواں زیخاروں کو قید سے رہائی ادا دیں۔ چنانچہ ہم سب لوگ حاکم کے ان پہنچنے اور میں نے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد بھاکہ میرے ہم سفر ساتھی اس کے گواہ ہیں کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا تھا اور اس دن کی تاریخ بھی یاد و اشت کے طور پر لکھا ہی تھی۔ اس شخص کا قتل اسد اللہ الناذل علی ابن ابی طالب علی السلام کے سوا کوئی ہمیں کر سکتا۔ اس کے دو ثبوت موجود ہیں۔ ایک تو ہمیں فخر جو چھت کے فلاں حصہ میں رکھا ہوا ہے اور دوسرا وہ لحاف جو دو سکر پر خون سے آلو دھے ہے۔

حاکم نے یہ سارا قصہ سنा اور خود اس کی تصدیق کے لئے اس مکان پہنچا۔ اس نے دونوں نشانیاں دیکھیں تو سارے قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ اس واقعہ کے بعد دشمن بھی شیعہ ہو گئے اور سارے ناصی اپنے سلک کو جبو کر علی علیہ السلام کے موالیوں میں شامل ہو گئے۔

پوشی کرنے والا ہے اس چہرہ کو آگ میں نہ جلا۔

مہاد آتشیں لباس پہنادیا جائے۔

پس اس جہاں حقیقی تک رسائی حاصل کریں۔ یعنی وہ جہاں جس کی
اصل ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنان اور سورج میں روشنی نہیں
رہ سکتی اگر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور نہ ہوں۔ لیکن یہ جہاں
روحانی ہے ہمذالپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور اپنی روح سے غافل نہ ہو جا۔
تم اپنے جسم کے آرام و آسانش کے توانتنے سامان کرتے ہو۔ اپنی قبر
کے لئے بھی کوئی زادراہ ہمیا کر لو۔ عالم برزخ میں تمہارا یہ بدن نہیں بلکہ
تمہاری روح ہو گی اور دہاں سے رزق بھی درکار ہو گا۔ لباس بھی۔ حیف تم پر
کہیں آگ تمہارا لباس نہ بن جائے۔

”سَرَابِيلْهُمْ مِنْ قَطَرِ إِنْ يَنْتَشِي وَجْهُهُمْ النَّارُ“
(سورہ ابراہیم۔ آیت ۵۰)

پھر تم دیکھو گے کہ یہ ظالم کس طرح ہر طرف سے تہیں گھیر لے گی اور
تم اس آگ کی گرفت سے نجات کے لئے ہاتھ پاؤں مارہے ہو گے لیکن وہ
اس طرح تمہارا احاطہ کر لے گی کہ نکل نہ پاؤ گے۔

”إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ مُرَادُهَا
وَإِنْ يَسْتَغْفِرُوا يُغَاثُوا بِعَاءُ كَالْمُمْهُلِ يَشُوِّي الْوُجُودَ
بِنْسَ الشَّرَابِ وَسَانَتْ مُرْتَفَقَاً“

۸۴
پڑھاک میں ملبوس کرے تیری ذات اور خودی اگر بد ہے، تو بد ہی رہے گی۔
پھر اس کا کیا حاصل؟۔

فرشہ صفت بننے کی کوشش کرو۔

کسی عورت کی بجائی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے آگے زبان بھی کھول
سکے۔ حضرت زہرا کی نگاہیں تو باطن تک پہنچ جاتی ہیں۔ اگر ایک نظر ڈال دیں تو
تو وہ دشی جانور بن کر رہ جائے۔ بعض لوگ جب اپنے کپڑے انکرد دیتے ہیں تو
ان کے جسم انہتائی بدوض اور خوفناک دھماکی دیتے ہیں اور اسکے بدن سے
انہتائی بدلو آتی ہے حالانکہ وہ اس کی آرائش و زیبائش کے لئے سوچن کرتے
اور سینکڑوں قسم کی عطریات اور خوبیوں جسم پر مل لیا کرتے ہیں۔ لیکن بے
فائدہ۔

کہتے ہیں کہ جب کوئی جھوٹا آدمی بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے اس قدر
گندی بو آتی ہے کہ عرش محلی اور ملائکہ تک کو اس سے اذنت پہنچتی ہے اور
سب اس پر لخت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا بدن تو محض رہتا ہے لیکن
یہ بدلو جو خارج ہو رہی ہے اس میں اس کی ذات کو دخل ہوتا ہے۔ چونکہ وہ بد
ہے ہمذماں سے بدلو ہی نکلے گی۔

”يَامَنَ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَسَرَّ الْقَيْمَحَ أَسْنَلَكَ يَا اللَّهُ
أَنْ لَا تَشُوِّهَ حَلْقَيْكَ يَا الْكَارِ“

ایے خدا۔ تو خوبیوں اور نیکیوں کا آشکار کرنے والا اور برائیوں کی پرده

یہ مخصوص اپنی خودی تک رسائی حاصل کرو یعنی روح اور اپنی جان تک نہ کر بدن تک۔

ارشاد باری ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَإِنَّهُمْ أَنفَسُهُمْ
أُولَئِنَّكُمْ نُمُّ الْفَاسِقُونَ لَأَيْسَرُوا أَصْحَابَ النَّارِ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مُغْنَزُونَ
(سورہ المثیر۔ آیت ۲۰، ۱۹)

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا إِيَّاهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِذْ جِئْتِ إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً
مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
(سیدنا الحسن بن علیؑ۔ آیت ۲۰، ۲۱)

نفس مطمئنة خدا کو محبوب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے اہل ایمان کو چہہتے کہ ان کے مال دماغی پر غور و فکر کر کے انہیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نادافی میں وہ تکبر کا شکار ہو جائیں اور ان باتوں کے اصل مفہوم تک ان کی رسائی نہ ہونے پائے نیز جس مقصد کا حصول مطلوب ہے اس سے قاصر رہیں۔

انہی باتوں کے بندگی نفس مطمئنة کا مقام اور اسکی حقیقت سے واقفیت ہے جس کو اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی آخری آیات میں بیان فرمایا ہے اور اسے ایمان کے بلند درجات میں شمار کیا ہے نیز صاف صاف لفظوں میں یہ وعدہ بھی فرمایا ہے کہ نفس مطمئنة کا جو بھی حامل ہو گا مرتبے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمت کی خوشخبری دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں لوٹ رہا ہے جو خداوند قدوس کو محبوب ہے اور

"لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَنْتَ سَبَتْ"

(سورہ بقرہ۔ آیت ۲۸۶)

پس خدا کی بندگی اور عبودیت میں زحمت اور ریاضت کے بغیر نفس
مطہرہ تک کسی بندہ کی رسائی ممکن نہیں اور موت بھی اس کو سکون و
اطمینان کی نصیب نہ ہوگی۔

جو اآل محمد اور بہشت خاص۔

يَا أَيُّهَا النَّفَسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِنَّمَا يَنْدَمُ إِنْ كَانَتِ رِئَاتِكَ فِي نَفْسٍ
تَوَارِزُ حِلْيَتِ الرَّبِّ يعنی اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ اور فَأَدْخِلْنِي فِي
عِبَادَتِي يعنی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اور جو اآل محمد میں
 شامل ہو جا۔ کیونکہ اآل محمد خدا کے مقرب بندوں میں ہیں۔ اور موت کے
وقت جس شخص کو ان ارواح عالیہ سے اتصال کی سعادت نصیب ہو وہ گویا
نفس مطہرہ سے سرفراز ہو گیا۔ اور طہانتی قب کے مقام پر فائز ہو چکا اس
طرح کہ موت کے بعد وہ کسی فصل یا کسی جاپ اور مراجحت کے بغیر اآل محمد
کے زمرہ میں شامل ہو کر سیدھے بہشت خاص میں پہنچ جائے گا جیسا کہ ارشاد
ہوا۔ "وَأَدْخِلْنِي جَنَّتِي" اور اگر چاہے کہ نفس مطہرہ کے بغیر ہاں تک
رسائی حاصل ہو جائے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔

بندہ کو چاہئے کہ غرور کرنا چھوڑ دے اور بندگی کی کوشش زیادہ
کرے۔

آخرت ہذا ہی کشمکش مرحلہ ہے۔ اگر دنیوی زندگی میں بندگی کے لئے

اپنی جست میں داخل ہونے کا مژدہ ساتھ ہوئے یہ اعلان فرمائہا ہے کہ وہ رضا
و سلیم کے ایسے مقام پر فائز ہے۔ جہاں اس کی نہ کوئی پکڑ ہو گی اور نہ کوئی
پابندی۔

آج کی زحمت کل کی رحمت۔

پس مرنے کے وقت سے لے کر بہشت میں داخل ہونے تک اس کے
لئے سعادت ہی سعادت ہے۔ جیسا کہ ہم دعا مالک کرتے ہیں کہ بارہماں بداری
موت کو بدار سے لئے باعث سعادت و رحمت بخدا دے۔ ہم ایسے بعض لوگ اس
دعائی حقیقت جلنے ہیں اور نہ اس سے منوس ہیں۔ حالانکہ نابردہ رن نجیح میر
نشود۔ یعنی رنج و تکفیل کے بغیر نجیح دراحت میر نہیں ہوتی۔
قرآن مجید میں مقامات عالیہ تک رسائی کو جن میں سکون و آرام کی
موت بھی شامل ہے انسان کی اپنی کوشش کا حاصل قرار دیا ہے کہ جب تک
کوشش نہ کرو گے منزل مراد شاپاسکو گے۔

وَإِنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَإِنْ سَعَيْهُ سُوفَ
يُرْدِي.

(سورہ الحم۔ آیت ۳۰، ۳۹)

اس قسم کی باتوں کا قرآن مجید میں جا بجا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جو وہ اپنے اعمال کے ذریعہ اس دنیا میں کئے گا
خواہ نیک عمل کرے خواہ بد اعمال میں ملتا رہے۔ نیک عمل کے ذریعہ کملی
کی ہے تو آخرت میں نفع کا باعث ہو گا اگر برے اعمال کئے ہو گئے تو اس دن
لقمان بھی اسی کو برداشت کرنا پڑے گا۔

بُو يَا تَذَبَّبْ كَعَمِ مَكْثُرٍ اُرْ اِيمَانَ كَمَا بَيْنِ دُولَتِ رَسَّا هَـ
پَنْدُو مَوْعِلَتْ پَرْ كَانَ بَحْـيٰ دَصْرَتَـا هَـ اُرْ اَـپَنِ اَعْمَـالِ بَدْـپَرْ اَشِـيَـمَـانَ بَحْـيٰ هَـوَـتَـا هَـ
تَـلَـمَـمَـ وَـبَـارَـهَـ اـسَـپَـرَـ غَـلَـتَـ طَـلَـرَـيَـ هَـوَـجَـاتَـيَـ هَـ اـورَـ بَـنَـدَـگَـيَـ وَـعَـبُـوـتَـ کَـرَـاسَـتَـےَـ رَـاـسَـتَـےَـ
مَـخَـرَـفَـ اـورَـ طَـمَـانِـیـتَـ تَـکَـبَـ اـورَـ کَـرَـدارَـ کَـیَـ ضَـمَـبُـوـتَـ سَـمَـحَـرَـوـمَـ هَـوَـجَـاتَـا هَــےَـ -~
تَـیَـنُـوـنَـ گَـرَـوَهَـ جَـنَـ کَـاـمِـسَـ نَـےَـ ذَـکَـرَـ کَـیَـاـ هَـےَـ خَـودَـ قَـرَـآنَـ جَـمِـیدَـ مِـیـسَـ اـنَـ کَـاـبَـیَـاـ مَـوَـجَـوَـهَــےَـ -~
وَكُنْتَمْ أَرْأَوْ جَاهَنَّمَةَ

(سورہ وَاقہ - آیت ۲)

حَـلِـلِـ جَـمـعـتـ جـوـ كـفـرـ پـرـ ذـئـنـیـ رـہـتـیـ هـےـ اـورـ نـفـسـ اـمـارـہـ کـےـ مـکـمـلـ قـابـوـ مـیـںـ هـوـتـیـ
بـےـ اـنـ کـےـ بـحـیـ کـیـ درـجـ ہـوـتـےـ ہـیـںـ اـورـ آـخـرـیـ درـجـ کـاـلـ گـمـاـبـیـ کـاـہـےـ جـہـاـنـ نـورـ
کـاـنـامـ وـنـشـانـ ہـنـیـںـ هـوـتـاـ۔

نـفـسـ اـمـارـہـ خـدـاـ کـاـ مـنـکـرـ ہـوـتـاـ۔

نـفـسـ اـمـارـہـ کـیـ بـےـ حـیـائـیـ اـسـ حـدـنـکـ بـڑـہـ جـاتـیـ هـےـ کـوـنـبـتـ بـہـاـنـ بـنـکـ
ہـنـجـیـ ہـےـ کـوـہـ اـپـ ہـیـ کـوـسـ کـچـھـ کـجـبـنـ لـکـتاـ ہـےـ اـورـ خـداـ سـ اـنـکـارـ کـرـ بـیـسـھـتـاـ ہـےـ
اـورـ کـہـتـاـ ہـےـ کـاـئـےـ نـفـسـ تـیرـاـ وـجـوـدـ تـوـہـ ہـےـ لـیـکـنـ تـیرـاـ خـالـیـ کـوـئـیـ بـنـیـںـ وـہـ بـزـعمـ خـودـ
یـوـںـ اـسـ حـدـلـالـ کـرـتـاـ ہـےـ کـہـ خـدـاـ کـوـ اـپـنـ آـنـکـھـوـںـ سـ دـیـکـھـ بـغـیرـ کـسـ طـرـحـ اـسـ پـرـ
یـقـینـ کـرـلوـںـ ۲

سوـالـ یـہـ ہـےـ کـہـ کـیـاـ اـسـ نـےـ اـپـنـےـ نـفـسـ کـوـ بـحـیـ اـپـنـ آـنـکـھـوـںـ سـ دـیـکـھـاـ ہـےـ
کـاـمـارـ کـیـ پـیـقـینـ رـکـھـتاـ،ـ پـھـرـ خـدـاـ سـ اـنـکـارـ کـیـےـ،ـ یـہـ سـبـ کـچـھـ اـسـ لـتـےـ ہـےـ کـہـ نـفـسـ
اـمـارـہـ کـیـ پـیـروـیـ نـےـ اـسـ رـاـہـ پـنـگـدـیـاـ ہـےـ

نـفـسـ کـیـ اـمـارـگـیـ اـنـسـانـ کـوـ رـفـتـ رـفـتـ اـتـنـیـ پـتـیـ مـیـںـ گـرـادـیـتـ ہـےـ کـہـ اـپـنـیـ
زـنـدـگـیـ اـورـ اـپـنـےـ وـجـوـدـ کـوـاـبـدـیـ اـورـ جـاـوـدـاـنـیـ خـیـالـ کـرـنـےـ لـکـتاـ ہـےـ اـورـ اـسـ گـانـ بـنـکـ

رـحـتـ نـاـ اـنـجـائـیـ ہـوـ اـورـ عـملـ نـیـکـ نـکـیـاـ ہـوـ توـ اـسـ مـرـحلـہـ کـوـ عـبـورـ کـرـناـ مـحـالـ ہـوـ گـاـ۔
ہـمـذاـ اـسـ کـمـنـ وـقـتـ کـےـ لـتـےـ آـپـ کـوـ تـیـارـ کـرـناـ ضـرـورـیـ ہـےـ -~

سـطـوـرـ بـالـاـمـیـسـ ہـمـ نـےـ نـفـسـ مـلـکـوـتـ کـےـ بـارـےـ مـیـںـ جـوـ کـچـھـ بـیـانـ کـیـاـ اـسـ سـےـ
یـہـ بـاتـ وـاـضـعـ ہـوـجـاتـیـ ہـےـ کـہـ غـزوـرـ وـ تـکـبـرـ سـ نـجـاتـ کـاـبـھـیـ رـاـسـتـ ہـےـ -~ آـدمـ اـپـنـیـ
غـلـظـتـ اـورـ بـےـ خـبـرـ کـےـ تـیـجـ مـیـںـ غـزوـرـ وـ تـکـبـرـ کـاـ شـکـارـ ہـوـجـاتـ ہـےـ اـورـ فـرـیـبـ مـیـںـ
بـلـاءـتـ ہـتـاـہـےـ -~ ہـمـذاـ اـسـ تـامـ گـلـخـوـکـیـ غـرضـ وـغـایـتـ یـہـ ہـےـ کـہـ اـوـلـ توـ ہـمـ غـزوـرـ وـ
عـبـرـ سـےـ چـھـکـارـاـ پـالـیـسـ اـورـ دـرـرـےـ یـہـ کـہـ ہـمـیـشـہـ اـسـ بـاتـ کـےـ لـتـےـ کـوـشـاـنـ رـہـیـںـ
کـرـ نـفـسـ مـلـمـنـ سـےـ قـرـیـبـ تـرـ ہـوـجـائـیـںـ اـورـ بـالـاـخـرـ اـسـ بـنـکـ رـسـائـیـ حـاـصـلـ کـرـیـںـ

الـاـنـوـنـ کـےـ تـمـنـ گـرـوـہـ -~

ہـمـیـشـہـ تـحـوـیـیـ بـنـیـ نـوـعـ اـلـاـنـ تـمـنـ گـرـوـہـوـنـ پـرـ مـشـتـقـلـ ہـیـںـ -~ اـیـکـ گـرـوـہـ
دـہـ ہـےـ جـوـ کـفـرـ وـ مـصـیـانـ سـےـ مـرـکـبـ اـورـ حـبـ اـورـ حـنـیـاـ اـورـ خـواـہـشـاتـ نـفـسـانـیـ کـاـ بـندـہـ ہـوـ -~
دوـسـرـاـ گـرـوـہـ وـہـ ہـےـ جـوـ بـنـدـگـیـ رـیـاغـتـ اـورـ پـاـکـبـازـیـ کـوـاـپـاـشـحـارـ بـنـاـئـےـ ہـوـتـےـ اـسـ پـرـ
ثـابـتـ قـدـمـیـ سـےـ جـارـہـ ہـےـ جـسـ کـےـ پـاـئـےـ شـبـاتـ مـیـںـ کـوـئـیـ تـوـزـلـ ہـنـیـںـ ہـوـتـاـ اـورـ
اـسـ کـیـ نـظـرـ ہـمـیـشـہـ سـیـمـیـ سـےـ رـاـسـتـہـ پـرـ ہـوـتـیـ ہـےـ -~

اـیـکـ اـورـ گـرـوـہـ انـ وـنـوـنـ گـرـوـہـوـنـ کـےـ بـینـ بـینـ ہـوـتـاـ ہـےـ کـبـھـیـ اـسـ
طـرـفـ اـورـ کـبـھـیـ اـسـ طـرـفـ -~ کـبـھـیـ توـ وـہـ رـحـنـ کـاـ بـندـہـ ہـےـ اـورـ کـبـھـیـ ہـوـادـہـوـسـ اـورـ
شـیـطـانـ کـاـ -~ مـسـدـدـ مـیـںـ جـبـ بـنـکـ ہـےـ رـحـنـ کـاـ بـندـہـ بـنـاـسـتـ ہـےـ لـیـکـنـ گـھـرـیـںـ ہـنـجـنـتـےـ ہـیـ
یـاـ باـزـارـ مـیـںـ نـکـتـہـ ہـیـ شـیـطـانـ کـاـ بـندـہـ بـنـ جـاتـیـ ہـےـ -~

سـتـدـبـدـیـنـ بـیـنـ دـالـیـکـ لـاـلـیـ مـوـلـاـدـ وـلـاـلـیـ مـوـلـاـدـ

(سورہ نـساـ -~ آـیـتـ ۱۳۳)

تم دیکھتے اور سنتے ہو کیا تمہارا خدا دیکھتا اور سنتا ہمیں؟

سب سے بدھی بات وجود باری تعالیٰ ہے۔ پھر کسی عجیب بات ہے کہ تم خود تو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور تمہارا خدا دیکھا ہمیں سکتا۔ تمہاری تو آنکھ ہے لیکن تمہارا خالق دیکھنے پر قادر ہمیں کیا تم نے اپنی آنکھ کا قبلہ درست کر لیا، ہمیں پس جس نے تمہاری آنکھ میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے وہ تو بغیر آنکھ کے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور کسی آرہ بصارت کی اس کو حاجت ہمیں اس لئے کہ وہ تو ہر طرف سے تمہارا حاضر کے ہوئے ہے۔

اسی طرح تم اپنے کانوں سے سنتے ہو۔ لہذا تمہارا خالق تم سے ہر وقت و سنتے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سورہ الملک میں کس لطیف پیرایہ میں ارشاد ہوا ہے۔

أَلَا يَعْلَمُ مِنْ خَلْقٍ وَمُوَالَّطِيفُ الْخَيْرُونَ۔

(سورہ الملک۔ آیت ۱۳)

کہ جس نے پیدا کیا ہے کیا وہ جانتا ہمیں۔ لیکن نفس امارہ خايد اس کا منہوم ہمیں سمجھتا۔

نفس امارہ کو بندگی سے کوئی رُچپی ہمیں۔

نفس امارہ کے سارے کام وہ ہوتے ہیں جن میں حق سے ردگردانی کا غصہ غالب ہوتا ہے اور مطہر نظریہ ہوتا ہے کہ اپنے وجود کو برقرار رکھے لہذا اسے بندگی سے کوئی رُچپی ہمیں ہوتی۔

اب اس نفس امارہ کے بھی مدارج ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو ان کے

93
ہمیں ہونے پاتا کہ وہ خود کوئی چیز ہمیں ہے بلکہ وہ ہر چیز میں اپنی اناکی تکیں جاتا ہے۔ مرا کمال، میرا علم غرض کہ میں، میں کی رست لگائے رہتا ہے اور نوہت ہمہاں تجھ کوچھی ہے کہ خدا سے انکار کر کے اس دنیوی زندگی کو سب کچھیں لکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيْوَاتُنَا الدُّنْيَا۔

(سورہ جاثیہ۔ آیت ۲۲)

وہ لوگ اس دنیا کی زندگی پر یقین ہمیں کرتے۔ چلتے ہیں کہ بس اسی زندگی کی حفاظت کرتے رہیں اور اسی کے لئے سامان و اسباب اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔

مادی اور دنیوی زندگی کی فکر۔

ایسے آدمیوں کو ہر وقت یہ فکر دا من گیر رہتی ہے کہ ان کی دنیوی زندگی عیش و آرام میں گور جائے اور ایک لمبے کے لئے بھی اہمیں یہ خیال ہمیں آتا کہ وہ بندے ہیں۔ ان کا کوئی خالق بھی ہے جوہی و قیوم ہے۔ ہمہاں تجھ کے اپنی ابحدا، اور اپنی اہمیا کے بارے میں بھی شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں لیکن اپنی قوت حافظہ اور تحفیل کے بارے میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ ہمیں رہتا درآئی حاکیکت نہ وہ حافظہ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ قوت والہم کو۔ پھر بھی انہیں ان کی موجودگی کا یقین ہوتا ہے کہ حافظہ اور شعور کا وجود ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ حافظہ اور شعور کس جگہ ہے اگر اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا ہمیں سکتے تو ان کا بھی وجود ہمیں۔

(۲۲) گھنٹے) اسی نفس کے زیر فرمان ہوتے ہیں اور ساری عمر اسی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ نفس امادہ ان پر اس قدر غلبہ پالیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آتا اور مالک گھنٹے لگتے ہیں اور انہیں بندگی کا خیال بند ہنس آتا۔

کم و بیش سب کامیابی حال ہے۔ لیکن حقیقت سے آنکھیں پھریر کر غافل ہنسیں رہنا چاہئے کیونکہ نفس امادہ، بمیث انسان کو گمراہی کی طرف راغب کرتے رہتا ہے اور اس کی تاک میں رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوفناک اڑو حجاج بھی ہنسیں مرتا۔ مصر

نفس اڑو رہا است او کئی مردہ است۔

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے شاگردوں نوکردوں اور ماتحتوں کارب خیال کرتے ہیں اور اپنی پنداز کا اس طرح اظہار کرتے ہیں کہ میرے شاگردوں کو چلپتے گر میری تعظیم کیا کریں نوکردوں اور کشیدوں کو چلپتے کہ میرے آگے جھکا کریں گویا وہ ان کے رب ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بندگی کے منصب کے خلاف ہے۔

نیحیت کا رگر ثابت ہوتی ہے۔

کبھی کجاں نصیحت و موعظت سے ان میں بندگی کا احساس بیدار ہو جاتا ہے اور فراوری کے لئے یہ سچنے لگتے ہیں کہ اس کی بستی اور تمام عالم موجودات خدا کی مخلوق ہیں اور وہ بھی دوسرا قیام مخلوقات کی طرح خدا ہی کے محتاج ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذْمَعْتُمُ الْفَقَرَاءِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ

(سورة فاطر۔ آیت ۱۵)

جس وقت تک دنیا کی دلفریبیوں اور اسکی بندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے تو پندو نصیحت اس پر اثر بھی کرتی ہے اور پکارا مختہا ہے کہ اے خدا میں تو کافر تھا اب میں اپنے ہمدکی تجدید کرتا ہوں اور مجھ پر ایمان لے آتا ہوں۔ آمنت بالله بکر اشد سے وعدہ کرتا ہے کہ اب میں اپنی ذات اور اس دنیوی زندگی کی فکر سے باز آیا پس آپ کو خود مختار ہنسیں بلکہ تیرا عاجز مجرور بندہ گروانتا ہوں ہر چیز کا توہی مالک ہے اور میں خود کسی چیز کا مالک ہنسیں۔ "لَا يَمْلِكُ
لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًا وَلَا مُؤْتَأَوْ لَا حَيْوًا وَلَا نَشُورًا" (عنایت کے بعد کی دعا) لیکن پھر سے خدا ہی اور کبریائی کا دھوکی کرنے لگتا ہے۔ کہاں تو اپنی عبودیت اور بندگی کا اعلان کر رہا تھا اور روحانیت پر مائل تھا اور اب یہ حال ہے کہ اپنے کفر کی اولین حالت پر لوٹ آتا ہے۔ غصہ کی حالت میں اس کی یہ کیفیت تو اپنے عروج پر ہوتی ہے جانچ کسی سے مغلوب پڑے اور تم اس کے باطن پر نکاہ ڈالو تو دیکھو گے کہ اس میں کفری کفر بھرا ہو گا۔ بندگی اور عبودیت کا شامبہ تک نہ پاؤ گے۔

اس غلام کا قصہ جس نے حضرت سجادؑ کے بچہ کو ہلاک کر دیا۔

حضرت زین العابدین کے حالات زندگی میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں چند مہماں آئے ہوئے تھے اور انکی تواضع کے لئے یہ کتاب تیار کئے جا رہے تھے۔ غلام گرم گرم یعنی سورہ میں سے نکال کر لانے والا حضرت امام کا ایک چھوٹا بچہ راستے میں آگیا۔ سو، اتناق سے کتاب کی گرم گرم سلاخیں غلام کے ہاتھ سے چھٹ کر پچھے کے سر اور منہ پر جاگریں اور اسی وقت

فرمایا کہ تم چاہو تو مجھ سے اس کا قصاص لے لو۔ میں نے تو محض تیری تائید بکے لئے تازیانہ لگایا تھا۔ غلام نے جب یہ صورت حال دیکھی تو معدزت ملکنے لگا اور کہا کہ میرے ہاتھ کٹ جائیں قبل اس کے کہ میں ایسی حرکت کرنے کی

اس پر حضرت نے اسے پھاٹ دیا اور کہا کہ تو آزاد ہے۔

غصہ بندگی کے حدود سے خارج کر دیتا ہے۔

بہر حال غصہ کے عالم میں مناسب طرز عمل یعنی ہے کہ بندگی کی حدود سے تجاوز نہ ہونے پائے اس لئے محاط رہنے کی ضرورت ہے زبان سے توکتے ہو "ایا کَ نَعْبُدُ وَرَايَاكَ نَسْتَغْيِيْنُ" کہ اے خدا، ہم تھنا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجوہ سے ہی حد کے طلب گاریں لیکن یہاں کیک ٹھہریں کیا ہو گیا کہ کہتے ہو اسے پاؤں ہی نہ ہوتے تو ہم قلاں قلاں گناہوں کا ارتکاب ہی نہ کر سکتے۔ لیکن یہ کہکر بھی عمّند اکی گرفت سے پتے آپ کو بچا نہیں سکتے۔

سید بحرالعلوم نے اپنی ایک نظم میں اس موضوع کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

ایاک من قول پ گفتند - و انت غیر الله کیت تعبد
ستجع فی ایاک نتعین - و انت غیر الله نتعین

لیعنی زبان سے تو کہتے ہیں، ہم تیری مدد کے خواستگار ہیں لیکن عمل سے یہ ثابت کرتے ہو کہ اینے یا غریب خدا سے مدد مانگ رہے ہو۔

بچے کی موت واقع ہو گئی۔

غلام نے بڑی چالاکی سے کام لیتے ہوئے قرآن عکم کی یہ آیت تکاوت
کرنی شروع کر دی۔

وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَا فِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (سورة آل عمران - آية ١٣٣)

حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے غصہ پر قابو رکھتا ہوں اور "وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ" کے الفاظ سنائے کر اسے معاف کر دیا پھر آدت قرآنی "وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جامیں نے تجھ کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔

سوچو تو جو شخص خدا کی عبودت میں رائج نہ ہوا ہو غصہ کی حالت میں کیا کچھ بکواس ہنسیں کرتا اور کسی بے جا حرکات اس سے سرزد ہنسیں ہو جاتیں۔ حق تو یہ ہے کہ اپنی ذرا سی غفلت اور ایک معمولی حرکت سے وہ خدا کی بندگی اور عبودت حق کی راہ سے دور چاپ لتا ہے۔

امام زین العابدینؑ جو عبادت گزاروں کی نسبت ہیں۔ ان ہی سے متعلق ایک اور حکایت بھی ان کی عبودیت اور اس پر بخوبی سے قائم رہنے کا ثبوت ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔

غلام کو سنبھلی کر کے آزاد کر دیا۔

مفتی الامال میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین کے غلاموں میں سے ایک غلام سے کسی جرم کا ارتکاب ہو گیا جس پر اس کی تجسمی ضروری تھی۔

جب تک طہانیت قلب حاصل نہ ہو تذبذب سے چھٹکارا ہمیں۔

اس سادی بحث سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک نفس کو طہانیت حاصل نہ ہو جائے وہ تذبذب سے چھٹکارا ہمیں پاسکتا اور کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف یعنی محلتی ہو کر تزلیل کاشکار ہوتا رہے گا۔ کبھی تو خود ہمیں اور شہوات میں مبتلا ہو گا اور کبھی خدا کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن نفس مطہرہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ایک طلاق کے لئے بھی خود پسندی اتنا نیت اور بے راہ روی کی طرف رغبت نہ ہو گی تیرپتے آپ کو مالک یارب یا معبد کے رب ہے پر فائز خیال ہمیں کر لے گا۔ اس کے بعد عکس اس یقین و اثاث پر قائم رہے گا کہ وہ تو اللہ کا بند ہے اور اسی سے والستہ یعنی "یامن کل شفیٰ قاریم یہ"

دعاۓ کمیں میں بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ "یامن بیسیداً ناصیتیٰ
گر اے خدا گے دو عالم سری زندگی سری بتا اور سری جان تیرے ہی با تحد
میں ہے۔ سیرا نفس جو نجیب ہمیں لیجا تا اور لاتا ہے تو وہ سیرے اختیار میں ہمیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سری لگاہ جب کسی
چیز پر بہتری ہے تو مجھے اس کی بھی امید ہمیں ہوتی کہ وہ واپس آسکے گی۔ میں اس
حد تک بے اختیار ہوں۔ اسی کا بندہ ہوں اسی کی مخلوق ہوں۔ نہ تو سیرا اپنا
وجود پاسیدار ہے اور نہ سیرے جسم کے ذات نہ اپنی صفات اور نہ اپنے
افعال کے تعلق سے کسی قسم کا بھی کوئی اختیار کھتا ہوں۔ پس یہ لازمی بات
ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی عرکت الیسی سرزد ہمیں ہو سکتی جو
عیوب دست کے خلاف ہو۔ مخصوصاً جو حقیقتی بدلے ہیں بندگی اور عبدت

کے لئے انہی کی روشن اختیار کرو جا کر نفس مطہرہ تک تمہاری رسائی ہو سکے۔

امام صادقؑ کا ایک کنزی پر ترس کھانا اور کبیدہ خاطر ہونا۔

امام مالک بن انسؓ کے بارے میں جو فتنہ مالکی کے بانی ہیں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دن مدینہ منورہ کی لگی میں سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ امام صادقؑ پریشان سے نظر آرہے تھے۔ پتے چاکر اہمیں کسی بات کا صدمہ ہے جس سے وہ رنجیدہ اور کبیدہ ہیں۔ امام مالک گھر سے ہو گئے اور دریافت کیا کہ اے آقا کیا حادث ہیں اگریا ہے کہ آپ کو پریشان اور رنجیدہ دیکھ رہا ہوں۔

امام صادقؑ نے فرمایا کہ میرے مکان کی دو منزلیں ہیں اور اوپر والی منزل میرا اطاق یعنی کرہ ملاقات ہے اس منزل پر پہنچنے کے لئے ایک زینہ ہے جس سے اوپر پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے اہل خانہ کو ناکید کر رکھی تھی کہ کوئی اس زینہ کو استعمال نہ کرے اور اوپر نہ جائے۔ لیکن آج جب میں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک کنزی بڑی کو گود میں لئے اسی زینہ سے اوپر جا رہی ہے۔ جو ہمیں میں داخل ہوا وہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور چاہتی تھی کہ واپس لوٹ جائے۔ ایسے میں بچ اس کی گود سے گرپڑا اور اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی۔ مجھے بچ کی موت کا اس قدر افسوس ہمیں۔ مجھے رنج تو اس بات کا ہے کہ وہ کنزی کیوں مجھ سے خوف زدہ تھی۔ ذرنا تو اللہ سے چلپتے نہ کہ مخلوق خدا سے۔

امام صادقؑ کو دراصل یہ خیال سارہ تھا کہ کنزی کو خدا کے خوف کے بجائے میرا خوف دامن گیر تھا حالانکہ میں تو بندہ ہوں۔ حق تعالیٰ سبحان کے مقابلہ میں وہ مجھ سے خائف ہو گئی جس کا مجھے افسوس ہے۔

التدرب العزت کے آگے انہیانی عجز و اعکسار کا اٹھار کرنا چاہئے۔

شريف روايت کرتے ہیں کہ حضرت صادقؑ کی حدست میں ایک شخص حاضر ہوا۔ ہنادت ادب و احترام سے حضرت کے سربراک کو بوس دیا اور پھر آپ کی پيشاني اور باحق چشم کرامام موصوف کے پروں پر گرپڑا تاکہ آپ کے پروں کا بھی بوس لے سکے۔ حضرت نے اسے فوراً ہی نوک دیا کہ وہ کیا کرتے ہو۔ سرے پاؤں پر گرپڑے ہو حالانکہ میں بھی عبد ہوں۔ خدا کے لئے ایسی حرکت نہ کرو۔ اس طرح کی عاجزی اور تزلل اللہ جل شانہ کے سوا اور کسی کے لئے سزاوار نہیں۔

امام موصوف کے نفس مطمئنہ کی مثال۔

غرضیکہ عبودت کا یہ تقاضا ہے کہ کسی حالت میں بھی غفلت اس پر غالب نہ آجائے اور بندہ اپنے مقام کو فراموش نہ کر دے۔ یہ کیفیت بدرجہ کمال مخصوصی میں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ ایسا نفس مطمئنہ ہے جو ایک لمحے کے لئے بھی امارگی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ نہ تو خواہشات کا اور نہ اپنے نفس کا اور نہ دنیا کا بندہ ہوتا ہے اور نہ اپنی خودی کو آزاد و خود مختار خیال نہیں کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ میں ممکن رہے اور یہ نہ سوچے کہ میں خود تو دیکھ سکتا ہوں اور خدا کے بدلے میں اس طرح خیال آئے گو یا وہ تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اور اسی کا نام مخصوصیت ہے۔

جب نفس مطمئن ہو تو وہ اپنے آپ کو اطاعت اور تعظیم کے لائق نہیں بخواہ کیونکہ یہ کیفیت نی الحقيقة کفر ہی کی ہے۔ پس چلتے کہ کبھی خیال

آجائے تو استخار کرے اور دوبارہ اپنی بندگی اور عبودت کا اقرار کرے۔

تمہارے لئے جو آگ دیکھ رہی ہے اسے بخانے کی فکر کرو۔

جیتاب سید بن طاووس نے اپنی کتاب فلاحت اسلامیں میں ایک روایت بیان کی ہے کہ بخ گاہ مذاہوں کے اوقات میں فرشتے کی نہ آتی ہے کہ اے مسلمانو مذاہ کرنے انجو اور اس آگ کو بخانے کی فکر کرو جو تمہارے لئے دینکانی جارہی ہے۔

ظہر کی مذاہ کا وقت ہو رہا ہے۔ اے شخص تو نے زندگی بھرا پنے نفس کی اطاعت کرتے ہوئے جو آگ روشن کی ہے انجو اور مذاہ کی برکت سے اسے بخا دے۔ اس کفر حقیقی کی آگ کو جس نے بخے خدا کی بندگی سے بارکھا۔ پس اقرار کر۔ کہ تو خدا کا بندہ ہے۔ سرتاپیا نیاز ہے۔ اور میں میں کہنا چھوڑ دے اور شیخی بخخارنے سے اجتناب کر کہ میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں۔

خدا کا نام لے اور میں میں کی رست لگانے سے باز آجا۔ اپنے نفس اور اپنی خود مختاری کے راگ کب تک الاپسار ہے گا۔ ادھر آؤ خود بھی و خود مختاری کا طوق اتار کر پھینک دے۔ جس آگ کو تو نے اپنی بداعمالیوں سے خود روشن کیا ہے اسے بخانے کی فکر کر۔

”وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَقْرِئُ عَوْنَاحَيْفَةَ“

(سورہ اعراف۔ آیت ۲۰۵)

نماذ بدترین غفلت کا علاج ہے۔

چیز پر چھو توچی گاہ کا لزام نہ ہو تو انسان حقیقی ایمان کے راستے پر گامزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور غفلت اس کا چھنا نہیں چھوڑتی۔ پس نماز کے ذریعہ یادِ الحنی میں عرق ہو کر اس کا شکر ادا کر کیونکہ نماز ہی سے ایمان اور ہدایت کی سیدھی اور کشاورہ راہ کی طرف تیری رہنمائی ہوتی ہے۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

(سورہ ط - آیت ۱۳)

اس راستے پر چلنے اور استقامت کے ساتھ اسے پکڑے رہنے والوں کا حা�جی و مددگار ہوتا ہے۔ پس جلدی کرو اور توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور معافی اس طرح مانگو جس طرح قرآن مجید میں مذکور ہے۔ آدمی رات کے بعد گوگرا کر اس سے معافی کے طلب گاہ ہو جاؤ اور اے جھوٹے تو کہتا ہے کہ تو خدا کا بندہ ہے لیکن کیا بندگی کا ہمی طریقہ ہے جس پر تواب تک عمل پیرا رہا ہے۔

نفس کی یہ کیفیت نفس لومہ سے ہمکار کرتی ہے۔ یعنی انسان چھل کھل تو خود کو ملامت کرتا ہے پھر اس کی تجھیہ اور سرزنش کر کے اپنی برائیوں پر نگاہ ڈالتا اور اس کی اصلاح کے لئے آمادہ کرتا ہے تاکہ نفس مطمئن تک اس کی رسائی ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نفس لومہ دہ ہے جو اپنی انا نیت اور خود سری سے باز رکھتا ہے اپنے عیوب پر نظر رکھتا اور اس کی تجھیہ و سرزنش کرتا رہتا ہے۔

بہرہ عیوب خلق دیدن نہ مردست است نہ مردی
نظری بخوبیتن کن کر بہرہ گناہ داری

اپنے نفس سے کہو کہ اے کذاب بھلا اتنی اکو کیوں دکھار ہا ہے جبکہ تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی شیخ عباس قمی پر رحم فرمائے کہ انہوں نے شخصی الامال نایی و چسب اور مفید کتاب لکھ کر فارسی زبان میں چہارو دو مخصوصین کے حالات بڑے ہی خوبصورت انداز میں تحریر کئے ہیں۔ مومنوں کو چاہئے کہ اس سے استفادہ کریں۔ چھانچھی حضرت زین العابدین کے بیان میں لکھتے ہیں کہ امام مو صوف رود کر اپنے نفس کو مخاطب فرماتے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی، ایک روایت کے مطابق نماز کی مثال ایک ایسے دریا کی ہے جس میں آدمی ہر روز پانچ مرتبہ ہنایا کرے تو وہ ہمیشہ پاک ہی رہیگا۔ یعنی یہ پانچ وقت کی نماز ایسی ہے کہ انسان کو اپنی غفلت اور خود تکاری کے زعم باطل نیز اپنے جھوٹے پندار سے نجات مل جاتی ہے۔ پس اخٹا اور خشوع و خضوع کے ساتھ "إِنَّمَا تَنْعَدُ دُوَّاً إِنَّمَا تُشْتَبَّهُ بِهِ" کا اقرار کر کے میں تو بندہ ہوں اور تیرے ہی کرم کا محاجن ہوں اس طرح کہ یہ عابزو و حقر خدا نے وحدہ لا شریک ہی کا بندہ ہے نہ کہ کسی غیر خدا کا محاجن۔ میری غفلت اور میں میں کے تمام دعوے جھوٹے اور باطن ہیں۔ خدا نے غفور و رحیم مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرم۔ "أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوَبُ إِلَيْكَ" میں نے الوبیت کے جھنے بھی دعوے کئے ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ "استغفر اللہ" میں تو تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرا ہی عبادت کرتا ہوں۔

نفس لومہ خود سرزنش کرتا ہے۔

اگر بھلانی چلتے ہو تو آؤ اور صراط مستقیم پر چل پڑو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ

اور اس پر نعم طعن کرتے تھے۔

نفس کی لاوگی قلب کے اطمینان کا پیش خیمه ہے۔

غرض کے مقصود یہ ہوتا چلپتے کہ نفس لواہ کا درجہ حاصل ہو جائے تاکہ نفس مطمئن تک رسائی ہو سکے۔ انسان کا ایک ایک گھنٹہ جو گزرتا ہے تو اس کا باطن ہر دفعہ ایک نیاروپ دھارتا ہے۔ کبھی تو اس کا نفس بیکھ کی ماں درندگی پر اتر آتا ہے اور کبھی بندرا کا شیوه اپناتا ہے۔ بندرا کا کام تو نقلی ہے۔ چنانچہ اسی کی تاسی میں ہو کر کہنے لگتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کام کر رہا ہے لہذا مجھے بھی وہی کرنا چاہتے۔ تمہیں چاہتے کہ اپنے عبوبوں کو یاد کرو تاکہ بعد من نفس مطمئن کے مقام تک بہنچ سکو۔ اور اپنے آپ سے اس طرح مخاطب ہو کر میں کیا اور سیری بساط کیا۔ نفس مطمئن تک کہاں سیری رسائی ہو سکتی ہے البتہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو میں اس کی طرف لوگانے کے قابل ہو جاؤں اور بندگی کا راست اختیار کر لوں یعنی عبد اللہ اور عبد الرحمن بن جاؤں نہ کر عبد الشیطان۔

پس ہمیں چلتے کہ کم سے کم نفس لواہ کے حصول کے لئے کوشش رہیں اور خدا کی عبوبیت میں ہم سے جو کوئی یہاں رہ جائیں اس پر اظہار مدامت کرتے ہوئے عاذ بری اور تصریع سے اس کی معافی کے خواستگاریں۔ اور لواہ کے بعد کے مقامات سے ہمکنار ہونے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں۔

عقلت کیوں غلبہ پالیتی ہے۔

اس موقع پر ہم نفس لواہ کی مناسبت سے ذیل میں حضرت مسیح مسیحی وہ

دعا یاد لاتے ہیں جسے ابو جزہ نے نقل کیا ہے۔

مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ میں نیک ہوں۔ نیکوکاروں کی محبت میں رہتا ہوں اور یہ کہ میرا ہر قدم نیکی اور فلاں اور تیری بندگی کی جانب انشتا ہے نیز یہ کہ میں اطمینان قلب کی دولت سے سرشار ہوں۔ لیکن پھر بھی غفلت مجھ پر غلبہ پالیتی ہے۔ میں بندگی کے راستے سے دور جا پڑتا ہوں۔ میرے پاؤں کو لغزش ہوتی ہے اور اپنی خود مختاری اور پسندار کے زخم میں تیری عبوبیت سے گہراں رہتا ہوں اور غفلت مجھے تیری خدمت کے شرف سے محروم کر دیتی ہے۔

رات کے بچھپے پھر جب ارادہ کرتا ہوں تو امتحن یہ مٹھا ہوں اور اسے پروردگار تیرے ساختہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں لیکن اوٹاگھ مجھ پر غالب آجائی ہے اور سیری مناجاتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔

"اے مالک دو جہاں۔ شاید تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا اور اپنی بندگی کے قابل نہ کچھ کر چجھ رور کر دیا۔

اس دعا کے یہ الناظل بطور خاص غور طلب ہیں۔

پروردگار عالم۔ تو شاید سیرا شمار دروغ گھوپوں میں کرتا ہے۔ تو نے دیکھا کہ میں نہار میں تو "ایاک نعبد" کہتا ہوں اور تیرا بندہ ہوں لیکن اپنی خود مختاری حقی کہ خدا کی بھی دھوپدار ہوں۔ سیری دروغ گوئی یہ بھی ہے کہ زبان سے "وایاک نستعين" کہتا ہوں اور عمل میرا یہ ہے کہ اسباب پر میری نظر ہوتی ہے خدا پر بہیں۔

"سیری ان خطاؤں اور لغزوں کے باوجود تو مجھے بخش دے اور گناہوں سے پاک کر دے۔ باراہما تو غفور درگر پر قادر ہے رحم کرنا تیری عادت ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر مجھے

عذاب دے اور مجھے دھنکار دے تو یہ بھی مجھ پر تیرا ظالم نہ ہو گا کیونکہ میں تو اسی کا مستحق تھا کیونکہ میں دروغ گوئی سے کام لیمارہا۔

”اے رب العالمین - اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے طفیل میں ہماری کوئی ہمیزوں اور ہمارے عیوب کو جلنے ہوئے ہمیں نفس نواسہ عنایت فرم۔ ہر حال میں انا بست اور توبہ کی توفیق عطا فرم۔ اور اپنی نظر کرم سے محروم نہ کر۔ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔“

بابا پنجم

بسم الله الرحمن الرحيم

لَا يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِذْ جِئَتِ إِلَيْ رَبِّكَ رَاضِيَةً
مَرْضِيَةً فَإِذْ خَلَى فِي عِبَادِي وَإِذْ خَلَى جَنَّتِي
(سورہ الفجر۔ آیت ۳۰۔۲)“

رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ اطمینان قلب ہے۔

نفس مطمئنہ کی شرح و تفسیر میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کے بلند مقامات اور توحید کے درجات میں سے ایک عظیم مقام کا وہ حامل ہے بلکہ انسانیت کے شرف و مجد کا آخری مقام و مرتبہ اسی کو

کہنا چلہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ رجوع الی رب (رَأْجِعُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ) تک رسائی ہو جائے اور اہل طینان قلب و نفس کی ایسی میزل ہے جو تسلیم و رضا سے عبارت ہے۔

انسان جب نفس مطمئنہ کا حامل ہو جائے تو بندگی کے اظہار کے لئے خدا کی راہ میں اور دین کی خاطر بے دریغ مال خرچ کرتا رہتا ہے تاکہ اسے اہلینان نصیب ہو اور اس کی بے چینی کا آزالہ ہو جائے۔ ایسا اہلینان جو اضطراب کی نیزخ اور وحشت کی خد ہے۔

خدا پر بھروسہ اضطراب کا قلع قلع کر دیتا ہے۔

انسان کا نفس جو ہٹلے اپنے آپ پر اور اپنے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے خود کو مالک و مختار خیال کرتا ہے۔ حالانکہ فی الحقیقت اس کا نفس، ہمیشہ مضطرب و بے چین اور مجیدہ و مولیٰ رہتا ہے تا انکہ وہ یقین کی میزل مراد نہ پالے یعنی یہ یقین نہ کرے کہ صرف خدا ہی مالک حقیقی ہے وہی قیوم ہے نیز اپنے آپ کے اور اس عالم موجودات کی ہر شے کے بارے میں یہ یقین پختہ ہو جائے اور کسی تذبذب کا شکار نہ ہو تو پھر اس کے لئے نہ تو کوئی خوف ہو گا اور نہ کسی بات کا رنگ ہو گا کیونکہ اب وہ اولیاً میں شامل ہو چکا ہو گا۔

الَّا إِنَّ أُولَئِيَ الْأَنْبَاءِ لَا يَحْوِفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(سورہ یونس - آیت ۶۲)

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا اور تقویٰ کا پادرست انتہیا کرے گا۔ نیز اپنی ساری عمر تقویٰ اور پرمیگاری میں گزارے گا

بندگی کے راستے پر ثابت قدی سے گامزن رہے گا اور اس عالم کی تخلیق کے بارے میں اور توحید الہی پر غور و فکر سے کام لیتا رہے گا تو اس کی رسائی اس مقام تک ہو جائیگی۔ جہاں اسے اہلینان قلب حاصل ہو گا اور کسی قسم کے اضطراب اور وحشت کا سامنا کرنے پڑے گا۔

الَّذِينَ امْتُوا وَ كَانُوا يَتَّهَمُونَ

(سورہ یونس - آیت ۶۳)

آج کے دور میں بینی نوع انسان کے سارے مصحاب کفر کا نتیجہ میں۔

تم دیکھتے ہو کہ آج کے آج کے دور میں سارا عالم انسانیت خواہ اس میں مسلمان ہوں یا یہودی، نصرانی ہوں یا دوسرے مادہ پرست، سب کے سب وحشت و اضطراب کا شکار ہیں۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں خود بھی اسے محسوس کرتے ہیں اور آئے دن اخبارات و رسائل اس قسم کی خبروں سے بھرے رہتے ہیں جن سے پتے چلتا ہے کہ کہہ ارض پر بینی نوع انسان کی زندگی و بال جان بن چکی ہے اور اضطراب و بے چین نے ہر شخص کا راحت و آرام ہی چھین لیا ہے چاہے وہ لکھ کر پتی ہو کہ ارب بی، فقریر ہو کہ اسیر، ریس ہو کہ عامۃ الناس، سب ہی پریشانی میں مبتلا ہیں کیونکہ وہ تو حید کے راستے سے دور جا پڑے ہیں۔ تو حید سے روگردانی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر اور اپنے اسباب پر بھروسہ کئے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے عزیز و مطالب اور خوف و وحشت سے انہیں چھکارا نہیں ملتا۔ چنانچہ اگر وہ دنیوی اسباب وسائل سے محروم ہو جائیں تو کبیدہ

خاطر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے مال و اولاد اور معاشرے میں اپنی عرفت و آبرو کے بارے میں یہ لگان رکھتے ہیں کہ انہیں دوام حاصل ہے اور وہی ان کے حاجت روایتی ہیں۔ لہذا جب ان میں سے کوئی یک بھی ان کے قبضہ و تصرف میں نہ رہے تو انہیں سخت رنج اور تکلیف ہوتا ہے۔ اور فوری پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ طرفی کے دنیوی اسباب پر اس حد تک ان کا بھروسہ ہوتا ہے اور انہیں دنیوی امور میں ان کے کارآمد ہونے پر استایقین ہوتا ہے کہ تجھنا ساری حodos سے تجاوز کر جاتے ہیں اور قناعت کا دامن ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ لاکھوں کی دولت بھی ان کی ضروریات کی تکمیل کے لئے کافی ہمیں ہوتی۔ سیکڑوں علاقوں فتح کر لینے اور بے شمار ممالک پر قبضہ جمانے اور جاہ و جلال کے نقطہ عرض پر پہنچنے کے بعد بھی ان کی عرص و طمع ختم ہمیں ہوتی۔ ہر وقت ہمیں فکر دامن گزیر ہوتی ہے کہ ان کی احتیاجات و خواہات کی تکمیل کے لئے یہ سب کچھ ناکافی ہے۔ ان کا اضطراب بوصاہی جاتا ہے کہ اب کیا ہو گا کیونکہ وہ امید کے بجائے ناامیدی اور آس کے بجائے یاس کی کیفیت میں بستا ہو جاتے ہیں۔ غرضیک مال و اسباب اکھا کر کے بھی وہ چیزیں سے ہمیں رہ سکتے۔ اس کے بر عکس جو لوگ ولایت اعلیٰ کے رتبہ پر فائز اور تو حید کے راست پر گامزرن ہوں انہیں شتوکی قسم کا خوف دامنگیر ہوتا ہے اور شکی غم و اندہ وہ میں وہ ہملا ہوتے ہیں۔

”الَّا إِنَّ أُولِيَ الْأَيْمَانَ لَا يَخُوفُهُ كُلُّ شَيْءٍ وَّالَّذِي

(سورہ یوسف۔ آیت ۶۲)

کیونکہ ان کا بھروسہ۔ صرف مبد۔ اصلی و ابدی یعنی ذات خداوندی پر ہوتا ہے۔

میں میں کی رث لگانا چھوڑ دے۔

پس انسان کو چاہئے کہ اس طرح کی سرکشی اور سرہابی سے ڈر تارے سے اس کفر سے تو پہ کر لے جس نے اس کے دل میں گھر کر لیا ہے اور بوصاہی جا رہا ہے سوچ بھجو سے کام لے اور یہ جلنٹے کی کوشش کرے کہ وہ خود کوں ہے یعنی جبکہ اپنے آپ کو پہنچانے کی فکر کرے۔ میں میں کی رث لگانا چھوڑ دے کہ تو ایک حقروں عابر زندہ ہے اور مالک کوئی اور ہے۔ تو اپنی کسی شے کا مالک نہیں۔ نہ اپنی ذات کا، نہ اپنے نفع و نقصان کا، نہ اپنی موت و زیست کا اور نہ قیامت کے دن کا۔

جب تک یہ بات اس کی بھجو میں نہ آجائے اور اس کفر سے جو، اب بخت ہوتا جا رہا ہے تو پہ نہ کر لے اور شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہ کر لے اس کی نجات ممکن نہیں۔ جان لوکہ تمہارا کوئی مالک ہے جو قیوم ہے اور تمہاری ہستی اپنے آپ و جو دمیں نہیں آئی بلکہ غمی طاقت نے تمیں یہ حیات مستعار عطا کی ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اسی عالم الغیب کے دامن سے والستہ ہے۔

”فَسَبَحَانَ اللَّهِيْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّالَّذِيْ
مَرْجَعُونَ“

(سورہ یوسف۔ آیت ۸۳)

تم بھی موجودات عالم میں سے ایک ہو اور احزان کے عالم ہی تمہاری ہستی کے عنابر ترکیبی ہیں۔

خدا کے ہاتھ میں ہے۔ عین دولت کے ہل بوتے پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ
وہ صحیت اور تصور کتنی بھی خرید سکتا ہے۔
”مَا أَغْنِتُهُ عَنْهُ حَالُهُ وَمَا كَسَبَ“

(سورہ ہب۔ آیت ۲)

ایک ملک کا حال جس نے بھوک کے مارے جان دیدی۔

مستظرف کی کتاب میں یہ حکایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ دریائے نیل
کے کنارے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک صندوق ملا جس کے اندر
ایک حنوطہ کی ہوئی لاش رکھی ہوئی تھی۔ پچھلا کہ یہ تو کسی ملکہ کی لاش تھی
قدیم مصر میں یہ روانچ تھا کہ فراعون اور اس زمانہ کے اسری کبریٰ لوگوں کی لاشوں کو
مولیاً یا حنوطے کے عمل کے ذریعہ محفوظ کر دیا جاتا تھا۔

اس صندوق میں لاش کے ساتھ بے شمار قسمی جواہرات بھی پائے گئے
اور ایک تجھنی بھی جس پر ملک نے اپنی موت کے وقت بطور وصیت عبارت
سخنده کروائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو کوئی بھی میری لاش کو دیکھے اسے یہ
معلوم ہونا چاہیے کہ میری سلطنت میں جب قطبہ اتو نوبت ہے ماں تک پہنچنی کہ
میں نے چاہا کہ اپنے تمام جواہرات کے بدله روٹی کا ایک نکڑا میر آجائے
لیکن مجھے روٹی کا نکڑا بھی نہ مل سکا اور بالآخر میری موت واقع ہو گئی۔ پس
لوگ اس سے عمرت حاصل کریں کہ ماں و دولت سے ہر چیز خریدی ہنسی جا
سکتی تا وقٹک خدا نہ چاہے۔ اسی طرح لوگ یہ خیال نہ کر لیں کہ وہ ہر کام کی
آزادی اور اختیار رکھتے ہیں۔ ذرا اپنی آنکھیں کھولو اور دیدہ عمرت نگاہ سے دیکھو
تاکہ ظاہری چیزوں سے فریب میں بملائے ہو جاؤ۔ جب تک خدا کی مرضی نہ ہو

کائنات خدا کی ملکیت اور سارے موجودات اس کے بندے ہیں

انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو اس کا بندہ اور غلام جانتے نیز ساری کائنات
میں اسی کی بادشاہی پر یقین رکھے۔ خداوند عالم نے فرآن مجید میں بار بار
ارشاد فرمایا ہے جبکہ ہم بدخت ہیں کہ اس پر کان نہیں دھرتے یعنی۔

”لِهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“
تمہارا اپنا وجہ اور عرش تا فرش کا ایک ایک ذرہ کا بہتان اسی کی ملکیت
ہے۔ کسی کو نہ دوام و بقاہ ہے اور نہ کسی کا و وجود اس کی قدرت سے بے نیاز۔
حی کہ سانس لینے پر بھی تمہیں اختیار نہیں ہے۔ کسی کی مبنزاں نہیں کو اپنے
اختیار سے کوئی کام کر سکے۔ اسباب و دروس آئیں نہیں: وہ کرہ جائیں اور نہادی
مرضی نہ ہو۔

مال و دولت کسی کام نہیں آتے۔

یچھا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ملک اور حوصلہ، مال و دولت اور جاہ
و ثروت سے اس کے تمام کام نکل سکتے اور مادی حاجیں پوری ہو سکتی ہیں۔ کیا
تم دیکھتے ہیں کتنے بی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں دولت کے ابصار لگے ہیں اور
انہوں نے اربوں روپیہ اکٹھا کر لیا ہے لیکن جب کوئی بیماری انہیں گھیر لیتی ہے
تو یہ ساری دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور فائدہ مدد شافت نہیں ہوتی
ہے ماں تک کہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے موت کے مقابلہ پر اس کا مال کسی
کام نہ آیا اور وہ اپنے آپ کو بھی موت سے نہ بچا سکا۔ بیماری کا علاج اور شنا تو

شُرکِ دالی مرکھیں سرزد ہو رہی ہو۔ یعنی محراب و منبر میں تو فصیحت آمیز بیان اور استغفار اللہ کے ذریعہ خدا کی بخشش کے طلب گارب ہستے ہو اور جب اپنے گھر پہنچتے ہو یا بازار میں لکھتے ہو تو تمہارا روپ یہی بدلت جاتا ہے۔ گویا کفر اور ایمان کو ساختہ ساختھ لے چلتے ہو۔ کبھی یہ اور بھی وہ۔ یہ روش توحید کامل کے منافی اور اطمینان نفس کی کیفیت سے دور لے جانے والی ہے جس سے احراف ضروری ہے۔

خدا کی مرضی ہو تو وہ اپنا دوست بنالے اور تمہیں قرار و اطمینان کی کیفیت سے نواز دے۔ پس چاہئے کہ اپنے آپ کو اور اسباب مادی کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا پابند تصور کریں۔ سب کے سب اسی کے ادنیٰ اشارہ کے محتاج ہیں پر محیط ہے۔ لہذا اس نکتہ کو گرد سے باندھ لو اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی مسیودہ نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔

خود کو مالک تصور کرنا جہالت ہے۔

ایسی صورت میں تم اپنے آپ کو کس طرح کا شریک ٹھہراتے ہو، ذرا اپنے نفس سے پوچھو کر میں نے تو یہ چاہا تھا لیکن ایسا کیوں نہ ہوا۔ ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ تم اپنے مالک ہونے کے دعویدار ہو حالانکہ نہ تو تمہاری جان، نہ تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد تمہاری ملکیت ہے۔ پس یہ خیال نہ کرو کہ تکلیفیں انہا کر دو لہت جمع کر لینے کے بعد وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ چنانچہ جب وہ تمہارا ساختہ چیزوں سے تو افسوس کرتے ہو۔ یہ تمہاری جہالت

تم چاہے سلاطے جہاں کی دولت اور وسائل جمع کر لو پھر بھی کسی کام کو انجام دینے میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔

مجاج بن یوسف کا سردی میں ٹھہڑ کا مرنا۔

کہتے ہیں کہ مجاج بن یوسف پر مرنے سے ہجتے سردی کا اس قدر شدید چمٹ ہوا کہ متعدد لحاف اور حصے کے باوجود اس کی کمپی کم نہ ہوئی۔ آگ کی انگیزیاں اس کے بستر کے چاروں طرف رکھدی گئیں لیکن سردی کے زور کو کم نہ ہونا تھا۔ ہوا تمہاں سمجھ کر آگ کی گرمی سے اس کے جسم کی جلد سمجھ تخلص گئی۔ پھر بھی وہ بھی کہتا ہا کہ سردی نے اسے دلوچ لیا ہے اور اس کا جسم کا پیٹا رہا۔ بالآخر اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔

بات یہ ہے کہ خدا کو اس کی صحت مظہور نہ تھی لہذا آگ آتشدان یا لحاف اور قالمین کیا فائدہ ہمچا سکتے تھے۔ یہ اسباب تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں اور شفادنا اسی کے اختیار میں ہے جنکہ وہ نہ چاہے اسباب جنہیوں اپنا اثر نہیں دکھائیں کیونکہ اسباب بھی تو اسی کے پیدا کر دہ ہیں۔

اطمینان نفس کے لئے توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا ضروری ہے۔

ہمارے پیش نظر مقصد یہ ہونا چاہئے کہ توحید کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ کفر اور شرک سے توبہ کرتے رہیں تاکہ توحید کے راستے سے بھلکنے نہ پائیں۔ یہ نہ ہو کہ بھی تو حید کی باتیں ہو رہی ہیں اور بھی کہا،

ہنس تو اور کیا ہے کہ اپنے آپ کو مالک و خاتم بھی بیٹھے۔ جو مال اللہ نے عذر خواہ طور پر عملیت فرمایا تھا اسے تم نے بزم خود اپنا بھجو لیا۔ ہاں شرعی حدود میں بہتے ہوئے مالک کا حقوق جتنا جائز ہے اور ایسا مال محفوظ بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مال و دولت باقی آئے وہ حرام ہے جس پر ملکیت کا تہمیں کوئی حق نہیں۔ اتنے نہ بنو اور دھوکہ نہ کھاؤ۔ اس مقاطط میں نہ رہو کہ مال و دولت کے حقیقی مالک تم ہی ہو۔ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ محنت کے ذریعے کامی ہوئی یا درش میں ملی ہوئی دولت پر تمہارا شرعی حق تو ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے حقیقی مالک کو فراموش کریں گے اور خود کو اصل مالک خیال کرے گو۔

ماں باپ بھی فی الحقيقة اولاد کے مالک ہیں۔

اولاد کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ اس پر ماں باپ کا حق ہے اسی طرح باپ کا فرض ہے کہ اولاد کے کھانے اور کڑے کا بندہ بست کرے۔

"وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رُزْقٌ هُنَّ وَكِشْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ"

(سورہ البرہہ۔ آیت ۲۲۲)

نیز ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچہ کو دودھ پائے۔

"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حُوَلِيْنَ كَامِلِيْنَ"

(سورہ۔ البرہہ آیت ۲۲۳)

لیکن اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ خود کو اپنی اولاد کا رب بھجنے گو۔

تم کہتے ہو کہ میں نے اس کو پال پوس کر دیا ہے۔ لیکن تم نے کہاں

سے اس کو بڑا کیا، بو تو اس کو خدا نے بڑا گئے کیا ہے۔ ہاں تہمیں اس کا ذریعہ بھایا اور تمہاری حیثیت و اساطیل سے بڑا گھکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دونوں میں بچہ کی محبت ذات دیتا ہے چنانچہ ماں تو اپنی نیندیں حرام کرتی ہے اور مخصوص بھیں انہا کر اس کی پروردش کرتی ہے۔ لیکن بچہ کو جو دودھ پلائی ہے کیا اس کا اپنا پیدا کر دہے ہے؟ پھر ماں کے جسم کو کس نے یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ اپنا دودھ بھی کے منہ تک پہنچائے ہاگر اس کا بھروسہ بدن بن جائے؟ خدا کی حقیقت کے سوا کس نے یہ اعتمام کیا ہے؟ ایسی صورت میں تمہارے لئے اس کا کیا جواز ہے کہ اپنے آپ کو بچہ کا مالک تصور کر لو۔ یہ سراسر بجاد عویش ہے جس کے تمہارے لئے بچہ پر اپنا حق جلانا بھی جائز نہیں۔

مری کیا حقیقت ہے کہ اولاد پر حق اطاعت جتنا ہو؟

ہمہ ماں اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت و احترام اور ان سے محبت شرعی احکام کی رو سے اولاد کا فرض ہے لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ والدین ان کی اطاعت کو اپنا حق نہ گردانیں اور یہ تو سوچیں کہ بھلا میری حقیقت ہی کیا ہے کہ میں اس طرح کا حق جتنا ہو؟

ساختہ ہی اولاد کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت اور احترام و نکریم کرتے رہیں اور دل میں ہرگز اس خیال کو جگہ نہ دیں کہ وہ خود بھی کوئی بڑی شے ہیں اس کے بر مکمل ہمیشہ اپنے آپ کو ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ خیال کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کی خدمت کے لئے پیدا کر دیئے ہیں۔

تقویٰ اور پرمیزگاری پر تسلیل کے ساتھ قائم رہنا چاہئے۔

المیمان قلب کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ مزید وضاحت کروں ہاک تو حید کے راستے پر قائم بنتے اور لا الہ الا اللہ پر کامل یقین رکھنے میں انسان ہنائیت کے اصل مقام تک پہنچ جائے لیکن یہ بیان کافی طوات کا مقصودی ہے میں نے اور پر جو آمت شریف درج کی ہے اس پر توجہ کے ساتھ غور کریں کہ

الْأَنْوَارُ أُولَيَاءُ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ
الَّذِينَ أَمْتُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

(سورہ یوسف۔ آیت ۶۳، ۶۲)

او لیله اللہ جنہیں نہ کوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے اور نہ کسی ثم میں بستا ہوتے ہیں آخر کون ہیں یہ دہ لوگ ہیں جو ایمان لائے کے بعد تقویٰ کو اپنا شمار بنالیتے ہیں۔ تمام عمر ریاضت کرتے اور زبد و پرمیزگاری پر عمل پیرا ہتے ہیں۔ جب کوئی لغوش ہو جائے تو فوری استغفار کرتے ہیں ہاک جادہ تو حید سے اخراج ف نہ ہونے پائے۔ اور ایمان والائق اور امیمان کامل کی منزل سے ہمکدار ہوں۔ کیونکہ ولادت کا یہ مقام و مرتبہ جب حاصل ہو جائے تو پھر انہیں نہ تو خدا کے سوا کسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کے ثم و اندودہ میں بستا ہوتے ہیں۔

نفس مطمئنہ خوف اور غم و اندودہ سے بچا رہتا ہے۔

اگر ان کے کام بنتے نظر نہ آئیں تو وہ رنجیدہ اور طول بہیں ہوتے۔ اولاً مر جائے پھر بھی انہیں پر دادا ہمیں ہوتی۔ مال چلا جائے تو کوئی افسوس ہمیں ہوگا۔ صبرہ شکر کا مظاہرہ کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جس کا دیا ہوا تھا اس نے واپس لے لیا۔ جس نے جان دی تھی اسی کے حکم سے واپس لے لی گئی۔ پھر غم کس بات کا، اس کی مصلحت میں بھیشہ خیر کا پہلو ہو گا ہے پس وہ حزن و ملال اور غم و اندودہ کو دل میں جگہ بہیں دیتے کہ اس کی مصلحت سے روگردانی نہ ہونے پائے۔

میں اور سیری آزادی و خود محترمی "کاراگ الپاٹا چھوڑو۔ اور یہ کہو کہ میں تو بندہ ہوں اور سیرے سب کام سیرے مالک کے اختیار میں ہیں۔ سیری روزی کس کے اختیار میں ہے، کیا سیرے مال اور سیری تجدیت میرے رزق کا ذریعہ ہیں۔ اگر میں ایسا خیال کروں تو کافر ہو جاؤں گا۔ کیونکہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی سیری روزی رسائی ہے۔ دنیا میں جب تک زندہ ہوں سیری روزی اسی کے ذمہ ہے اور جب ہمارے سے رخصت ہو جاؤں گا تو اس وقت بھی اسی کے ذم و کرم کا محتاج رہوں گا۔ اس دنیا کا رزق اور بعد ازاں مرگ عالم برزخ میں بھی تجھے رزق پہنچانے والا وہی ہے۔ وہی تو ہے جو ہر عالم کی مناسبت سے رزق ہم پہنچاتے اور اسی نے مجھے پیدا کیا ہے۔

بَلْ أَحْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَوْمَ زَهْرَةِ

(سورہ آل عمران۔ آیت ۱۶۹)

اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف دامنگر
ہنسیں ہوتا۔

اولیاء اللہ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی خوف ہنسیں ہوتا۔
تو ان کا ماضی انہیں بدحال کرتا ہے اور نہ ہی آئندہ پیش آنے والے واقعات
کے بارے میں وہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ مستقبل میں جو کچھ بھی ان پر گزرنے والے
ہواں کی فکر اس لئے لاحق ہنسیں ہوتی کہ نہ معلوم کلی تک وہ زندہ بھی رہیں
گے یا ہنسیں۔ پھر کل کے بارے میں فکر کرنے اور پریشان ہونے سے کیا
حاصل۔ مستقبل کا حال تو معلوم ہنسیں۔ پس ہرچہ بادا بادا کمکر صبر سے کام لینا
چلتے۔

= کسی بد نصیبی ہے کہ لوگ آئندہ سال بھر میں پیش آنے والے
واقعات کی فکر میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں حالانکہ انہیں یہ بھی خبر ہنسیں کہ
ایک رفتہ کے اندر کیا کچھ روشنہ ہو سکتا ہے۔
لیکن جو شخص اولیاء اللہ کے زمرہ میں شامل ہو جائے اور نفس مطہر
کے مقام پر فائز ہو جائے وہ اپنے مستقبل کی فکر سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس
لئے کہ وہ مکھتا ہے کہ جو کچھ پیش آنے والے اس پر اسے کوئی اختیار ہنسیں اور
نہ اس کو اپنا حق خیال کرتا ہے۔ بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اے
خدادون۔ میری مقدر، میری زندگی اور میرا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں تو
تیرا بندہ ہوں اور تو جو سلوک بھی میرے ساتھ کرنا چاہیے اس کا کچھ پورا اختیار
ہے۔ اگر میری زندگی کا کچھ حصہ باقی ہے تو اس کے لئے اسباب اور سامان
حیات ہمیا کرنا بھی تیرے ذمہ ہے۔ میں اپنے آپ کو تہبا خیال ہنسیں کرتا

کیونکہ تو میرا ولی اور سر برست ہے۔
اللّٰهُ وَلِيُّ الدّّيْنِ أَمْنَوْا

(سورہ البقرۃ۔ آیت ۲۵۸)

**ذَلِكَ بَيْانُ اللّٰهِ مُؤْلَى الدّيْنِ أَمْنَوْا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا
مُؤْلَى لَهُمْ**

(سورہ محمد۔ آیت ۱۱)

اور تجھے سا بزرگ اور قوی جس کا سر برست ہو، اسے کس چیز کا خوف یا
اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو اسباب دنیوی سے محروم اور اپنے مستقبل کی
فکر۔ میں نے تیرے آگے سر تسلیم ختم کر دیا ہے اور تیر نے سوادہ تو کوئی دوسرا آغا
ہے اور نہ میں خود اپنا مالک ہوں۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیم کی موت
پر گر کریے کتاب ہونا۔

اولیاء اللہ کا یہ کام ہنسیں کہ وہ اپنی کسی چیز کے کھوجانے پر حزن و ملاں کا
اظہار کریں۔ کوئی اگر پوچھے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئندہ
علیم السلام کے حزن و ملاں کا کیا جواہر ہے۔ یعنی حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم نے بھی اپنے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت پر آنسو ہٹائے
تھے نیز حضرت حسین علیہ السلام نے بھی تو اپنے بچہ گو شہ کو گود میں اٹھا لیا تھا
اور اسے پیدا کر کے رونے لگے تھے یہ غم و اندوہ کا اظہار ہنسیں تو اور کیا ہے۔ اس
کا جواب یہ ہے کہ اول تو خدا کے بندوں کے عمل کو اپنے عمل پر قیاس ہنسیں

امور پر امراض کا مظہر۔

ای طرح عاشورہ کے دن امام حسین کا عمل رحمت الہی کے طلب گار ہونے سے عبارت ہے۔ ہمارا نیک کہ اس دن حسین کو جو کوئی دیکھتا اس کے دل میں رحم کا جذبہ خود بخود بیدار ہو جاتا اور سب سے بڑا رحم کرنے والا تو پروردگار عالم ہے پس رحمت الہی کی طلب مقصود تھی ۔ کہ اپنے نفس کی خواہش کا اظہار اور حکم خداوندی کی بلاچون وچرا تعییں ہی کا ایک طریقہ جس میں ہوانے نفس کا کوئی دخل نہ تھا۔

امام حسینؑ کے آخری باروں نے اور نوح کرنے کی حقیقت۔

شیخ شوستری نے امام حسین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھا کہ حسین عاشورہ کے دن چھ بار روئے اور یہ کہ چھ مرتبہ بھی جب حسین روئے ہیں تو اللہ سے رحم کے طلب گار ہو کر ہی روئے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور اسی عالم میں ان کے آنسو رواداں تھے۔

آخری بار وہ اس وقت روئے جسکر ان کی صاحبزادی سکھیہ اپنا چھڑہ باپ کے پاؤں پر رکھر زار و قطار رونے لگیں۔ یہ منظر بڑا ہی دلخراش تھا۔ حسین نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا۔ دست شفقت سے سکھیہ کے پتھرہ اور سر کو سہلاتے رہے اور ایک شعر پڑھا۔

لا تحر فی قلبی بد معک حررة
مادام مني الروح فی جسماني
اے میری بیٹی اپنے آنسوؤں سے میرے دل کی آگ ہے
شکر کہ میں ابھی زندہ ہوں۔

کرنا چاہیے۔ ہمارا اور تمہارا اظہار سرمت والہ بہادرے نفس کی خواہش کا جامع ہوتا ہے کہ ہائے میرا بچے کیسے مر گیا، اس کی موت کیوں واقع ہو گئی، اسی رنج و غم کے عالم میں ہم پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور خدا پر امراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا نیک کہ بعض جاہل لوگ اپنے عبیزوں کی موت پر صبر کر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو حضرت عمر اسیلؓ کے بھی نکلوے نکلوے کبدریں۔ کہ تم نے میرے بچے کو کیوں مار ڈالا۔ غرض یہ کہ اپنی جہالت اور اپنی انسانیت کے اظہار میں کوئی کسر ہمیں انہمار کئے۔

لیکن اولیاً اللہ کا طریقہ بالکل دوسرا ہے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ ان کی موت کا حکم دیتا ہے وہ ہنسی خوشی پہنچنے آپ کو موت کے سپرد کر دیتے ہیں۔
بقول شاعر۔

ایں جان عادیت کے محافظ سپردہ دوست
روزے رخش چ بینم د تسلیم دے کنم
شاعرنے کیا خوب ہماہے کہ میری حان تو میری ملکیت نہ تھی۔ اسی نے
وی تھی اسی نے لے لی۔ جب اپنی جان کے بدلے میں یہ تصور ہو تو پھر اولاد
اور دوسرے اعزاء و اقارب کے مرنے پر کیا فلم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ "یُحِیی
وَيُمْتَثِّلُ" وہی ہے۔

رحمت الہی کی طب نہ کہ لفاسیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے فرزند ابراہیمؑ کی موت پر رونا اس غرض سے ہے کہ رحمت الہی کا نزول ہونہ کہ ہوانے نفس یا قضاۃ قدر کے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْعَنَةُ إِذْ جِئْتِ إِلَى رَبِّكِ

رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلْنِي فِي عِبَادِي وَادْخُلْنِي

جَنَّتِي

(سورہ الحجر۔ آیت ۲۰۲)

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَنَةً يَقْدِرُكَ رَاضِيَّةً
يَقْضَاكَ مُوْلِيَّةً يَذْكُرُكَ وَ دَعَاكَ سَاجِدًا
لِصَفْوَةِ أُولَيَّاِكَ مَحْبُوبَةً فِي أَرْضِكَ
وَسَماَكَ صَابِرًاً عَلَى نُزُولِ بَلَاغِكَ شَاكِرًاً
لِفَوَاضِلِ نَسَارِيكَ

ارواح عالیے کے ساتھ اتصال

ہم نے سورہ الحجر کی مذکورہ آیت کی تفسیر کافی شرح و بسط کے ساتھ بیان گردی اور واضح کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء، نبیم السلام اور آسمانی حکب کے نزول کا اصل مقصد انسان کو اس مقام تک پہنچنے کا راستہ و کھانا ہے جو اطمینان قلب اور تسلیم درضا کا مقام ہے اور کسی بھی بشر کے لئے بلند ترین اور اعلیٰ ترین مرتبہ کا حامل ہے۔ اور جب وہ اس مقام کو پالیتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی ارواح عالیے کے ساتھ حصل ہو جاتا ہے۔

اس سلسلہ میں مزید وضاحت کی خاطر زیادت شریف امین اللہ کی جانب متوج ہونے کی ضرورت ہے تاکہ حقیقی معنوں میں نفس مطئنہ کا

مُنْهَمْ دَخْنَهْ هُوكَ.

زیارت امین اللہ ہدایت اہم بھی ہے اور جامع بھی۔

سب سے بچٹے تو یہ دعا مانگو کہ "اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقُدْرَتِكَ" اور ہر چند کہ زیارت امین اللہ ای کے بقدر اور بہت ہی مختصر ہے لیکن اپنی بات تو یہ ہے کہ اس کا شمار سب سے سحر بر جامع زیارات میں ہوتا ہے۔

مؤمنین میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ پوچھا بات ہے کہ زیارت امین اللہ کی دعا اپنی ضحامت میں ایک صفو سے بھی زیادہ پر مشتمل ہنس لیکن اپنے اوصاف اور فضائل کے اعتبار سے سب پر فضیلت حاصل ہے، اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیت میں تو کم ہے لیکن کیفیت میں بہت بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس زیارت شریفہ کو قلب پید کر کے مقامات عالیہ کا طالب ہو تو وہ سخنی اعتبر سے بے شمار نعمتوں سے نواز جائے گا۔

زیارت امین اللہ کی تفصیل۔

جو شخص امام کو امین اللہ کی حیثیت سے ہمچنان لے گا تو اس کے لئے وہی کافی ہو گا۔ شرعاً یہ ہے کہ پورے یقین اور اختقاد کے ساتھ امام سے مخاطب ہو کر یوں عرض کرے۔

آپ تو خدا تعالیٰ خزانوں کے مالک ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص کو جو کچھ

بھی ملتا ہے وہ آپ بی کے واسطے ملتا ہے۔ یہ صرف زبان سے نہ کہے بلکہ دل میں بھی اس پر دامن یقین ہو۔
بعد ازاں یہ الفاظ کے جائیں۔

"أَشْهَدُ أَنَّكَ جَاهَدْتَ فِي الْحَقِّ حِبَادَةً"۔ یعنی میں گواہی دستا ہوں اس بات کی کہ آپ نے مدراک راہ میں اس طرح چہار کیا کہ جیسا کہ اس کا حق تھا۔ گویا آپ نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا۔

محبے دراصل کیونی اعتبدار سے اس زیارت کی اہمیت دکھانا مقصود ہے۔
حضور قلب اور عقیدہ رائج کے ساتھ استباحی کر لیا جائے تو کافی ہے ولیے اس کے فضائل و مطالب کی تفصیل تو خاصی طویل ہے۔

اویس شرط تو قلب کا اطمینان ہے۔

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقُدْرَتِكَ"

اے خدا۔ اپنی قدرت بے پایاں سے میرے نفس کو اطمینان عطا فرم۔
اگر بلند تر مرتبہ چاہتا ہے تو وہ مقام، سلامان محمدی اور ابوذر غفاری کا ہے جو نفس الہی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہم السلام سے اتصال کا مقام ہے۔

اس آئی شریفہ میں نفس کا لفظ درج سے عبارت ہے۔ کیونکہ انسان کا جسم اسی کے ذریعہ ہے۔ اور یہ جسد خاکی دراصل اسی کی کار فرمائی اور اسی کے احکام کی تکمیل کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ بات ہنس کر یا آیا تھا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّہُ میں نفس سے مراد انسان کا ہی ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں۔ میں آیا

۔ میں گیا۔۔۔ میں نے یہ کام کیا۔ وغیرہ۔ بلکہ یہاں نفس کا مطلب ہے کہ انسان کی اصل حقیقت یعنی اس کی ذات مراد ہے نہ کہ اس کا بدن۔
پھر مسلمان کے معنی ہیں قرار و سکون۔ جو اضطراب اور بے چینی کی صد ہے چنانچہ جب تک انسان کو اطمینان میر ہیں آتا ہے قراری اور اضطراب میں یقین و تاب کھاتا رہتا ہے۔ لیکن آخر اس اضطراب کا بب کیا ہے؟

دنیوی اسباب پر بھروسہ اضطراب کی اصل وجہ ہے۔

آدمی کو جب تک خدا کی ہمچنان نہ ہو اور یقین کے مقام تک اس کی رسائی نہ ہو اس کا دل اضطراب ہی کاشکار ہو گا۔ وہ ظاہری اسباب پر عکسی کرتا رہے گا۔ اور زندگی کو اپنے کندھوں پر ایک بوجھ کی طرح اٹھاتے اٹھاتے پھرے گا۔ سلاسلہ تہارے مشاہدہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض طالب علم اپنا سین تو پڑھتے اور یاد کرتے رہتے ہیں اور حصول علم کے لئے بھی مشقت اٹھاتے ہیں تاکہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں بلکہ بُوی بُوی ڈگریاں حتیٰ کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کر لیں لیکن جب یہ ڈگری ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور کسی ادارہ میں انہیں ملازمت مل جاتی ہے تو پھر اپنے حقوق کے لئے کوشش رہتے ہیں اور بے چینی و اضطراب سے پچھا ہیں چھوٹا سا کیوں نکلے ان کے خیال میں انہیں جو کچھ ملا ہے وہ ان کی ڈگری کے شایان شان ہیں یا ایک صراف اور چوہری کو دیکھو کہ اسے ہر وقت یعنی اندر یا سرگردان رہتا ہے کہ کب اسے بھٹکا ہو جائے اور اسی لگر میں رہتا ہے کہ فلاں سودا کروں یا نہ کروں۔ غریبیکہ سب ہی لوگ اسی قسم کے اضطراب کاشکار ہوتے رہتے ہیں۔ حالانکہ لا الہ الا

الله کا گلہ دروزبان ہو گا ہے اور قرآن مجید کی تکاوت بھی کرتے ہیں اور زبان سے بھی گفتہ ہیں کہ سارے کاموں کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے لیکن دل میں اس پر کامل یقین ہیں ہوتا اس نے پریشانی میں بستا رہتے ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ اسباب دنیوی ہی کو سب کچھ بچھ دیتے ہیں۔ کہتے تو ہیں کہ خدا ہی رب اور پالنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سارا انتظام ہے اور وہی ہر دل الامر ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ کفری میں بستا ہوتے ہیں۔ خداونپی زندگی کو بوجھ خیال کرتے ہیں۔ زعم یہ ہے کہ دنیوی اسباب ہی کے بل بتوتے پر وہ سارے امور کو انجمام دے سکتے ہیں اپنے آپ کو اور سارے بھی نوع انسان کو مستقل بالذات خود مختار اور ہر کام کے سلسلہ میں آزاد تصور کرتے ہیں اور جب اسباب ان کا ساختہ دیں اور خود کو بے یار و مددگار اور بے ہمدا محسوس کریں تو پھر انہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ کیونکہ دنیوی اسباب تو ان کی مرخی کے تابع ہوتے ہیں اور ان کے حسب دل خواہ ہر چیز واقع ہو سکتی ہے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے متفقہ اسباب اور وسائل کی تلاش ہی میں سرگردان رہتے ہیں اور جب اسباب وسائل ان کے ہاتھ نہیں آتے تو بایوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔

مال اور اولاد پر بھروسہ حقیقی کفر کی علامت ہے۔

اب ایک اور شخص کی مثال لو۔ اس کے ہاں مال و دولت کی افزایش ہے اور وہ اپنے تھیں اس کھنڈ میں بستا رہتا ہے کہ اس طرح خوش حالی کی زندگی بسر ہوتی رہے گی۔ لیکن اس دنیا میں ایک نہ ایک دن تو زوال آتا ہی ہے اور اسکی دولت کو بھی کسی نہ کسی دن تو ختم ہونا ہی ہے۔ لیکن وہ جو نہیں اس

حال کو ہٹھتا ہے، غم و اندوہ اور حزن و مال سے بے حال ہو جاتا ہے۔ اب تم دیکھو کہ اس کی وی فرشتوں جیسی صورت پر ہوا یاں اڑی ہیں اور اس کے چہرے کو کلرکی تاریکی نے ڈھانک لیا ہو گا۔ یہ محض اس لئے کہ غیب پر اس کا ایمان ہنسیں ہوتا اور یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت باہم سے چل گئی تو سب کچھ جاتا رہا۔

ایک دوسرے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر پرداں چڑھایا اور اس امید پر کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو بینا اس کے لئے بڑھاپے کا سہارا ثابت ہو گا۔ یعنی بینے کے مر جانے پر تو اس کا امن و سکون بھی غائب ہو جاتا ہے۔ چونکہ خدا شناس نہ تھا اور اس کی قدرت پر بھروسہ نہ تھا ہذا اگر یہ وزاری اور بے تابی و بے سبزی کا اظہار کرنے لگتا ہے

خود کشی بھی نفس کی بے اطمینانی و بے چینی کا ظہار ہے۔

کبھی بیوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالتا ہے لواٹے مایوسی کے سوا کچھ نظر ہنسی آتا۔ نیز سارے اسباب اور وسائل منقولہ ہو جاتے ہیں اور امید کی تخلیک بھی ہنسیں دکھائی دیتی۔ اس صورت حال سے دل برداشت ہو کر وہ خود کشی کا ارتکاب کر یعنی ہے۔ جب کسی نوجوان کو روزگار ہنسیں ملتا تو اپنا گلا کھونت لیتا ہے اور زندگی کا بوچھ سنبھلنے کے لئے اس کے خیال میں عین واحد ذریعہ ہو سکتا تھا اور چونکہ وہ اس سے محروم ہو گیا ہے ہذا امید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بلاک کر ڈالتا ہے خدا کی رحمتوں اور فضل و کرم سے ناامیدی ایمان کے تزلزل اور بے اطمینانی

کا باعث ہنتی ہے اور یہ سرگ نظر ہے۔

"قَدْ يُنْسُوا مِنَ الْأُخْرَةِ كَمَا يَنِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ
الْقَبْوَرِ"

(سورہ الحجۃ۔ آیت ۱۲)

ولی اللہ کی قبر پر یہیج کرا طمیتان قلب کی دعا مانگنا۔

غرضیکہ اور بھنی مثالیں ہم نے بیان کی ہیں وہ سب بے صبری بے یقینی اور اضطراب و پریشانی کی ہیں کہ ایمان کے بغیر آدمی کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو ایمان کامل ہی ہے۔ پس خدا کے تعالیٰ سے جو چیز ما نکنی ہے بھنی اطمینان قلب ہے یعنی "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مُطْمَئِنًا بِقَدْرِكَ" اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے کہ خداوندا میں تیرے ولی کی قبر پر حاضر ہوا ہوں اور جس سے اطمینان قلب کی نعمت کا طالب ہوں اور پھر یہ کہ اے امین خدا اے خزانہ دار خدا آپ کا واسطہ درکار ہے۔

- پس جس وقت بھنک اطمینان نفس حاصل نہ ہو جائے وہ کفر ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے نہ کہ مسب االاسباب پر جب آدمی اپنے پروار دگار پر بھروسہ کرنے لگے تو تمام ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود اپنے آپ کو تہبا محوس کرتا اس لئے اس کا مولا اور سرپرست تو خدا ہوتا ہے ہذا اس کا امن و سکون کوئی ہنسیں چھین سکتا۔

"ذَلِكَ بَيْانُ اللَّهِ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ
لَمْ يَمْلِنِ لَهُمْ"

(سورہ محمد۔ آیت ۱۱)

میرے مولا کے خزانے دولت سے بھرے ہوئے ہیں اور کبھی
خالی نہیں ہوتے۔

کبھی ختم نہیں ہوتے۔ دولت ہاتھ سے جاتی ہے تو میں کہہ سکوں کہ میری
اصل دولت تو خدا پر بھروسہ اور توکل ہے۔ جب خدا میرا کارساز ہے تو اسکے
آگے میری طاقت و قوت کس شمار میں آسکتی ہے۔

خدا تو اولاد کا بھی ہوتا ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی کثیر العیالی سے تسلیک آ جاتا ہے اور کہتا
ہے کہ میری زندگی تو عذاب بن گئی ہے۔ دس افراد کھانے والے، ہیں اور سب کا
باد میرے دوش ناتوان پڑے۔ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ پچھے اور اولاد بھی خدا
کی دین ہیں اور جس طرح تیری ذات کا مالک خدا ہے ان کا مالک بھی خدا ہے۔
کیونکہ جس نے من اور دانت دیئے ہیں وہی ان کو روشنی میں پھوٹا ہے۔
پھر اسے یہ فرم بھی کھائے جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا
ہے گا اور ان کی پرورش کیسے ہوگی۔ لیکن جس طرح خدا اس کا کارساز ہے اس
کی اولاد کا بھی وہی کارساز ہے۔ پس چاہئے کہ دل میں اسیے خیالات کو جگہ دے
دے اور ٹھیکین دے ہو۔ مادی اسہاب سے امید لگائے رکھنا اور خوف اور مایوسی کا
شکار ہو جانا کفر کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس طرح وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔

سب کا پلتے والا خدا ہے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور کارساز حقیقی ہونے پر جس
قدرت زور دیا گیا ہے اس کا تھا اسی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے
ہیں کیونکہ اصل کا فرمائی اسی کی ہے اور غیر خدا کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔

اب ہم اور پر بیان کردہ مشہوم کو ایک مثال کے ذریعہ واضح کریں گے۔
کسی شہر میں ایک مالدار شخص رہتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں سخت قحط
پڑا جس سے سارے لوگ غیر معمولی صاحب و آلام میں بستا ہو گئے۔
(خدا کرے کہ ہم کسی ایسے قحط سے دوچار نہ ہوں۔ ابھی حال کی بات
ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں جو کچھ ہم پر گزروی وہ ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں)
وہ بیان کرتا ہے کہ شہر میں لوگ ہر طرف پر پیشان تھے اور واپیلا چما ہوا تھا
لیکن اس نے ایک غلام کو دیکھا کہ وہ بخی خوشی اور ہر طرح کی فکر سے آزاد
لپٹے کام میں ہر آن مہمنگ ہے۔

اس شخص نے غلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ساری فہرست تو
مرا سیکھی اور اضطراب کا شکار ہے اور تو خوش و خرم دکھائی دے رہا ہے غلام
نے جواب دیا کہ میرے آتکے پاس تو دولت کے انبار لگے ہیں پھر کس بات
کا فرم ہو سکتا ہے۔ میرے مالک کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔

وہ بیان کرتا ہے کہ غلام کی اس بات نے مجھ پر بلا اثر کیا اسے اپنے
مالک اور آتا کی ظاہری دولت و قوت پر احتبا بھروسہ تھا کہ ہر طرح کی پریشانی
اور فکر سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ کاش کہ میں بھی اپنے حقیقی مالک و آتا پر
بھروسہ کرتا اور یہ کہنے کے قابل ہوتا کہ میرے ساتھ خدا ہے۔ پھر مجھے کس
جزری حاجت ہے کیونکہ میرے خدا کے خزانے تو ہمیشہ بھرے ہے ہیں اور

روانہ کیں تاکہ انہیں علی کی مخالفت پر آمادہ کیا جاسکے۔ حضرت ابوذر غفاری نے مئی کے ایک برلن کی طرف اشارہ کرنے کے فرمایا کہ جب تک اس برلن میں جو کچھ بھی باقی ہے میں بے دیاز ہوں۔ اس برلن میں دور دنیاں رکھی تھیں فرمایا کہ ایک تو آج سیرا روزہ افشار آرٹے کے لئے ہے اور دوسری کل کے روزہ کے لئے سحری کے لئے کافی ہے۔ اور اگر میری عمر کا کچھ حصہ باقی ہے اور کل بھی زندہ رہ جاؤں تو خدا میری روزی چھپانے والا ہے۔ لیکن کل کا تو عالم ہنسیں۔ معلوم میں زندہ بھی رہوں کہ ہنسیں۔ پھر علم کس چیز کا اور فکر کس بات کی؟ جو ہستی آج تک میرے رزق کا بندوبست کرتی رہی ہے۔ باقی عمر بھی وہی رزق پہنچتا رہے گا۔ یقین کر دار مجھے خدا کے سوا کسی اور ہستی یا کسی چیز کی حاجت نہیں۔

يَا إِيَّاهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْأَمْوَالُ

(سورہ فاطر۔ آیت ۱۵)

اس کے سوا مارنے مخلوق، اسی رو فقیر، شاہ و گدا، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ ایسا کار ساز ہے پاہے تو کسی ذریعے یاد اسط کے بغیر بھی محتاجی حاجت و کر رکھتا ہے۔

ایک موحد مومن کا کنوئیں میں گرتا اور امداد غیری سے اس کا صحیح سالم باہر نکل آنا۔

کیا تم نے اس مرد خدا کا قصہ بھی سنائے۔ جو ایک اندر صیری رات کو کسی جمل میں سفر کر رہا تھا کہ ناہماں ایک کنوئیں میں گر پڑا۔ اتفاقاً ایک اور مناظر

میں اور تو اور سارے بنی نوع انسان سب کے سب پانی کی ایک حقیر بوندے زیادہ کچھ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا۔ جب تک شیر خوارگی کے عالم میں رہے تو فضل و کرم شامل تھا جس نے ماں باپ کو ہماری خدمت اور پذیرائی پر مامور کر دیا۔ گواہ میں تھے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی ممکن نہ تھا لیکن اب یہ کھنڈھ ہے کہ ہم آزاد و خود خنادار ہیں۔ یہ اختیار کہاں سے مل گیا؟ حالانکہ رزق دینے والا احمد اونٹ کریم ہی ہے اس کا ارشاد ہے کہ روئے زمین پر اپنے قدموں سے چلنے والی کوئی مخلوق ایسی ہنسیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے ہو۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.

(سورہ ہود۔ آیت ۶)

ہمدی زندگی بھی اس وقت تک ہے جب تک اس کی مشیت چلے اور جب تک ہم زندہ ہیں وہی ہمارا روزی رسائی ہے۔

ہاں یہ سچ ہے کہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کا تناقض یہ تھا کہ ہمیں کام کرنے اور کام کی صلاحیت عطا فرمادے۔ چنانچہ کھبی بڑی بھی کرتے ہیں اور گھر بانی بھی کرتے ہیں اور دوسرے بہت سے پیشوں سے منسلک ہیں۔ ہم ہمدی زندگی کا دار و دار اس پر ہنسیں۔ زندگی تو دراصل اسی کے رحم و کرم کی محتاج ہے۔ پس اسباب دنیوی کی کمی بیشی پر ہمیں دل برداشتہ اور پریشان ہمیں ہونا چاہیے۔

کل تک زندہ رہو گے تو کل بھی رزق دینے والا ہی ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر غفاری کے لئے معاویہ نے چالیس اشرفیان

کاں طرف سے گز رہوا۔ اس نے سوچا کر کنوئیں میں کوئی گرش جائے ایک بڑا
ہتر انحا کر کر اس کنوئیں پر رکھ دیا اور کنوئیں کا سخن بند کر دیا۔
لیکن وہ مرد خدا جو کنوئیں میں گرچا تھا اپنے کار ساز حقیقی سے امید
لگئے ہوئے تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اگر اس کی زندگی باقی ہے اور ابھی اس کی
موت کا وقت ہنس آیا تو اللہ تعالیٰ یعنی اسے اس محیت سے نجات دلائے گا۔
وہ ابھی تھی سوچ رہا تھا کہ کنوئیں کے بالائی سرے سے مٹی اس کے سر پر گرنے
لگی۔ اب جو اس نے اپر کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ کسی جانور کی دم سی لمحتی
ہوئی نظر آئی۔ اس نے موقع غمیت جانا اور اس دم کو پکڑ کر اپر پڑھتا ہوا صحیح
سلم کنوئیں سے باہر نکل آیا۔

چونکہ خدا کی مرضی تھی کہ اسے کنوئیں کی گہرائی سے زندہ سلامت باہر
نکال لے لہذا اس کی مشیت نے جس طرح چہا اس کے لئے ذریعہ اور وسیلہ
سمیا کر دیا اور اس کو بچایا۔ لیکن اگر خدا کی مرضی نہ ہوتی تو ہزاروں جتن
کرنے کے باوجود وہ باہر نکل سکتا تھا۔

اولیاء اللہ کوئی خوف دامن گیر ہوتا ہے اور وہ علیکم ہوتے
ہیں۔

اس کا رخداد ہستی کا سارا انتظام خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وہی مدد اور
اور کار ساز حقیقی ہے۔ کائنات کا ایک ایک ایک ذرہ اسی کے زیر نگین اور اسی کے
حکم کے تابع ہے۔

چنان مجھے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کو اس باب دنیوی کے

فقدان اور وسائل زندگی سے محرومی کا خوف ہو تو وہ اولیاء اللہ کے زمرہ میں
ہرگز شامل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اولیاء اللہ کوئے تو اس باب کے زائل ہونے کا
خطرو ہوتا ہے اور وہ ان پر کوئی افتادہ نہ ہے تو وہ اس سے علیکم و محروم ہوتے
ہیں۔

”اَلَا إِنَّ اُولَيَاءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“

(سورہ یونس۔ آیت ۶۲)

اولیاء اللہ کا قول تو ”رَاضِيَةً بِقِضَائِكَ“ ہوتا ہے لیکن خدا کی مرضی
پر سرتسلیم خم۔ اگر اس کی مصلحت کا تقاضا نہیں ہو کہ مجھے کسی مصیبت یا
آزمائش میں بدلاؤ کر دے تو اس میں میری بھلانی ہے اور اگر اس کی مصلحت د
ہو تو کوئی مصیبت بھی مجھ پر نازل نہیں ہو سکتی۔ لہذا مجھے نہ تو اپنے ماضی میں
گورے ہوئے واقعات کا افسوس ہے اور نہ آئے والے مصائب کا خوف۔
جس بات سے عام لوگ خائف ہوتے ہیں میرے لئے خدا اسی بات کو پسند
فرمائے تو اسی میں میری بھلانی ہوگی۔ پھر مجھے پریشان اور علیکم ہونے کی کیا
ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ نہ چاہے گا تو مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے گی۔

حسین اور زینب اطہیناں قلب کے کامل نمونے ہیں۔

حسین یہ جانتے تھے کہ وہ کہ سے جو ختنی روادہ ہو گئے انہیں گرفتار کر لیا
جائے گا اور جو یہ مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن مدارج عالیہ پر فائز کیا جانا
مقصود تھا اور ان کی بھلانی اور خدا کی مصلحت اسی میں تھی پس انہوں نے یہ
صحوبیں برداشت کرنے کی نمہمانی لی۔

حسین تو نفس مسلمن کے پیکر تھے۔ چونکہ سکون و آرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہمدا راضی بر رضاۓ الہم ہوتے ہوئے تھنا و قدر کے فیصلے کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا۔

ز شب نے اس دشوار گوار سفر میں اپنے آرام کا خیال نہ کیا بلکہ خواتین اور بچوں کے آرام کا بندوبست کرتی رہیں۔ ایمان اور نفس مسلمن کا بھی کچھ تھا اس تھا چانچو ز شب کے حالات میں وہ تمام تفصیلات لٹتی ہیں کہ کوڈ کے بازاروں ابن زیاد کی محفل اوسی زید کے دربار میں ان پر کیا کچھ نہ بیٹتا۔ اور ان سے کیا سلوک کیا گیا جوان کے شایان شان نہ تھا۔

شیعہ توہہار کی طرح مصبوط ہوتے ہیں۔

نکشم مومن پہلا کی طرح مصبوط ہوتے ہیں۔ حادثات اور مصائب ان کے عزم کو نہ مترالوں کر سکتے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ خدا یا ہمیں بھی نفس کا اطمینان عطا فرمائے اور تسلیم و رضا کے ستام پر فائز فرم۔ اور ہمیں بھی اہل بیت کے شیعوں کے زمرہ میں شامل فرم۔

لیکن یاد رکھو کہ ہمارے اور ان کے ماہین فاصلہ طویل ہے۔ آزمائش کے وقت پر ہی = معلوم ہو سکے گا کہ ہم ظاہری و دینیوی اسباب کو کس قدر آتم سمجھتے اور ماہو اللہ پر ہمارا کتنا بھروسہ ہے۔

اویام اللہ کے ظاہری اسباب جو مفتوح ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ اس محان کا موقع ہوتا ہے چانچو حضرت ابراہیم کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ محان میں پورے اترے اور خدا نے انہیں اپنادوست بنالیا۔ اگر تم مسلمان فارسی اور جیب بن مظاہر کے مقام تک رسائی حاصل کرنا پہلے ہے

ہو تو اپنے خدا پر بھروسہ کرو اور دیکھو کہ آیا تمہیں طہانت قلب حاصل ہے یا ہنوز اپنے آپ کو با اختیار کچھ کر پریشانی میں مبتلا ہو نہیں خدا نے واحد کو چھوڑ کر تم نے اپنے لئے ہزاروں مولا بنالیے ہیں۔ تم اپنے آپ کو بندہ ہمیں کچھے اس لئے تھنا و قدر کے فیصلوں کو بے چون و چرا قبول نہیں کرتے اور ایسے ان پر معرض ہوتے ہو۔

خدا جو کچھ چاہتا ہے اس کو خوشی سے قبول کرنا ہی رضا و تسلیم ہے

چانچو رضا و تسلیم کے معنوں میں فرمایا گیا ہے کہ اعتراض اور شک و شبہ کو دل میں جگہ نہ دے یا تسلیم و رضا ہے یعنی جس حال میں بھی رہیں اور جو کچھ بھی ہیئتے اس پر صبر و شکر کا اظہار کرو اور پر کچھ کر اسے قبول کر لینا کہ میرے پروردگار کی مصلحت ہی ہے اور اسی میں میری بھلانی ہے۔

زیارت امن اللہ کے بارے میں ہمیں چلتے کہ سارے اماموں کا واسطہ دیکر یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اطمینان قلب نصیب کرو اور مشیت کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرم۔ "اللَّهُمَّ اجْعَلْنَّنَفْسِي مُطْمَئِنَّةً بِقَدْرِ رَأْسِيَةِ يَقْضَايَكَ"

نیز اہل بیت کے وسیلے سے نعمتوں اور خاص طور پر مرتبہ وقت سکون کی موت کے طلب گارہیں اس خیال سے لٹکتیں اور پریشان نہ ہوں کہ اس دنیا سے جا رہے ہو۔ ہمہارا ارزق یہاں بھی خدا ہی ہے برزخ میں بھی وہی رزق عطا کرے گا اور قیامت کے دن کار ارزق بھی وہی ہو گا۔

جائزہ اٹھے تو اس طرح رعا کی جائے کہ خدادندا یہ تیرا بندہ ہے اور

بسم الله الرحمن الرحيم

۱۷۲

تیرے بندے ہی کا میٹا ہے۔ اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ یا تم مرنے والا خود بھی مرنے سے ہٹے اسی قسم کی دعائیں تکارے تو اس کی تاثیر اور بھی زیادہ ہو گی بشرطیکہ یہ یقین رکھے کہ مالک الملک کے الاف و اکرام اور رحمت خداوندی کے زیر سایہ اس کی رسائی ہو رہی ہے۔

لَا يَأْتِهَا النُّفُسُ الْمُطْمَئِنَةُ اُرْجُمَتْ اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً فَإِذْ خَلَقَنِي فِي عِبَادِي وَإِذْ خَلَقَنِي جَنَّتِي.
لپنے نفس کی خواہشات سے بازاً جاؤ اور خدا کی طرف سے جو مل
جائے اس پر قناعت کرو

ہم نے جو آیات قرآنی اور عقلي دلائل پیش کیے ہیں ان کا حاصل بھی ہے کہ خدا نے انسان کو بعدگی اور عبودت ہی کے لئے پیدا کیا ہے بلکہ ہر آدمی کی فطرت میں بندگی کا چھلو مضرہ ہے۔ یا تم اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں راستے دکھا دیئے ہیں چاہے وہ ہوا و ہوس کا بندہ بن جائے۔ چاہے وہ اپنے خالق کی بندگی اختیار کر لے۔

حیوانات کا مالک کی اطاعت کرنا ایک فطری عمل ہے کیونکہ وہ خلقی طور پر اس کے پابند ہیں لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار و ارادہ سے بھی نوازا ہے۔ حیوانات اور انسان میں بھی فرق ہے کہ جانوروں کو اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کے سوا کسی بات سے سروکار نہیں لیکن انسان کے اختیار

میں ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھے اور مولا سے جو چاہتا ہے اسی کی ہتھ رکھے۔ گویا اس میں یہ صلاحیت و دیعت کردی گئی ہے کہ ہوا وہوس کا بندہ یعنی عبدالہوی بن جائے یا تحدا کا بندہ یعنی عبدالله بن جائے۔

دنیا میں لکھنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اول الذکر راست اختیار کرتے ہیں۔
نفسانی خواہشات اور عرصہ وہوا کے تابع ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ سراً مروہ
محمد اون قدوس کی اطاعت کو اپنائنا شعار جاتا ہے۔

انسانوں میں اکثریت نفس امارہ کے حامل لوگوں کی ہے۔

تاریخ کے ہر دور میں انسانوں کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل رہی ہے
جو نفس پر سکتی پر عمل پیرا رہے ہیں اور ان کے لگے میں شیطان کی بندی باطل ہے
ہوتا ہے اور ان کا نصب الحین اور مقصد حیات شہوات ولذات کی تبلیغ میں
سوچ کچ اور نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ نفس امارہ کے حامل ہوتے ہیں۔ دو اقسام
عرصہ اور امداد و ترویت کی خواہش ان کا اوزھنا محسوس ہوتا ہے۔ نیز کسی حرمت پر
نظر پڑ جائے تو ان کی نفسانی خواہش اور جذبہ شہوت جاگ اٹھاتا ہے اور ہمیں
دولت ہاتھ آنے کی اطلاع پاتے ہیں تو اسی کے پیچھے بھال گئے لگتے ہیں ان کو حلال
و حرام کی تحریز نہیں ہوتی ہے بلکہ کوئی ان سے حلال و حرام کا تذکرہ تحریز دے نہ
اس کا مذاق اڑاتے ہیں طاغوت و سرکشی اسی کا نام ہے۔
نیکی کیا ہوئی تماشا ہوا۔

نفس امارہ کا تعلق کافروں کے ساتھ مخصوص ہے۔ بہت سارے
مسلمان بھی اس کے حامل ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں تو ریا کاری سے کام

لیتے ہیں۔ یا شہرت کے طالب ہوتے ہیں یا اپنی کسی حاجت روائی کی غاطر
عبادت کا سہارا لیتے ہیں حتیٰ کہ سفر اور تجارتی اغراض کا بھی عبادت نام لکھتے
ہیں پسچاہجہ ان کے حج سے مقصود ہی ہوتا ہے۔ پس جو عبادت اس نیت سے کی
جائے وہ نفس امارہ کی عبادت ہوتی ہے۔ جس میں نفس کی حکمرانی ہی کا دخل
ہوتا ہے۔ جب کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو اس کو بڑھا پڑھا کر بیان کرتا ہے
درحقیقت یہ کوئی نیکی نہیں بلکہ اس میں بدی ہی کا چھلوٹا مل ہوتا ہے کیونکہ
اس کے کرنے میں نیت تو نیک نہ تھی محض اپنے نفس کی تسلیم کے لئے یہ
نیک کام کیا تھا۔

جب کوئی طبعاً بد ہو تو بدی ہی کی طرف مائل رہتا ہے۔

جب نفس امارہ کا مستقل غلبہ ہو تو نیکی بھی بدی میں بدل جاتی ہے۔
ہائے افسوس کہ آدمی نیک کاموں کو بھی بد نیت سے انجام دیکر اس کے دراء
ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ عین طائفی عمل اس کو سیدھا جنم میں لے جائے
گا۔

**فَإِنَّمَا مِنْ طَغْنٍ وَأَثْرَ الْحَلْوَةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ
مِنَ الْمَأْوَى.**

(سورہ العنكبوت۔ آیات ۲۹-۳۰)

کیونکہ اپنے نفس سے مغلوب ہو جانے اور ظلم و زیادتی کا روپہ اپنائے کا
نتیجہ عینی ہوتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ نفس کے درسرے درجہ یعنی نفس
لوامہ کا حال بیان کروں تاکہ ہبھتے درجہ یعنی نفس امارہ کی حقیقت اور وادیخ ہو
جائے۔

گناہ کے بعد نفس برائی سے بے زار ہو جائے تو وہی نفس لواحہ
ہے۔

نفس کا دوسرا درجہ وہ ہے جو نفس لواحہ کھلااتا ہے اور قرآن مجید میں اللہ
تعالیٰ نے بھی اس کی قسم کھاتی ہے۔
وَلَا إِقْسُمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةٍ

(سورہ الیقمنہ۔ آیت ۲)

انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس ہی کے حکم کا تابع رہتا ہے اور جب بھک
اس کی اطاعت کرتا رہے گا تب تک اپنے آپ کو برائیوں میں بیٹلا پائے گا۔
کیونکہ نفس امارہ گناہ پر بھی اکساتا ہے اور ذہنی سے بھی کام لیتے ہوئے اس پر
نادم بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہوتا۔ گناہ
کے ارتقاب کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ چاہے تو
خدا کی ہندگی بھی اختیار کر لے اور ارتقاب گناہ کے چھٹے مرحلہ ہی میں اپنے آپ
سے بیزاری اور اپنے نفس پر ملامت کرنے لگے کہ مجھ سے فلاں گناہ کیوں سرزد
ہوا یا میں نے فلاں فرض یا واجب کیوں ترک کر دیا۔

اس طرح کا عمل ایمان ہی کا مظہر ہے۔

کافروں میں کی بیچان کے لئے جو مثال بیان کی جاتی ہے اس کا مطلب
یہ ہے کہ کافر سے گناہ سرزد ہو جائے تو ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی ناک پر مچھرا
مکھی بیٹھ جائے اور اڑ جائے جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے گویا کہ کوئی

بات ہی نہیں ہوتی۔

لیکن مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گناہ کا ارتکاب اس کے لئے ایسا
ہے گویا وہ کسی وادی سے گرد رہا تھا اور ناہماں یہ مداری سے کوئی نر دست چنان
اس کے اوپر آگری ہو۔ نیز مومن اگر دن میں کوئی گناہ کر بیٹھے تو رات بھر گزر
گواہ تارہے گا گویا اس نے اپنی ماں کو حخت ست ہڈیا ہوا اور اس کی شان میں
گستاخی کر یہ مٹھا ہو۔ غرض کہ اس میں ایمان کی رمت باقی ہے اور جو نکد وہ مومن
ہے اہذا اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے گا۔

نفس مطمئن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا

ایک روایت کی رو سے حضرت امام محمد باقر نے ایمان اور بے ایمان کا
فرق اس طرح واضح کیا ہے۔ مومن کی یہ شخصیت نہیں کہ اس سے گناہ سرزد ہی
نہیں ہو گا پاہن اگر نفس مطمئن کے درجے تک اس کی رسائی ہو جائے تو پھر کسی
گناہ کا سرزد ہونا اسکے لئے انہائی رنج اور بے چینی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے
بر عکس نفس امارہ ہے جو بے باکی سے گناہ کا ارتکاب کئے چلا جاتا ہے اور اس پر
بضقدام بھی رہتا ہے۔ یہ اسلئے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔

نفس امارہ کا آخری محکمانا تو جہنم ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا
ہے کفر و عصیان پر جو لوگ ڈٹئے رہتے ہیں ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے کیونکہ
احکام خداوندی کی سرگاتی کرتے وقت انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اگر زندگی
خوش حالی اور عیش و تنعم میں گرفتاری ہے تو بزم خود یہ کہتے ہیں کہ یہ مال و
دولت اور جاہ و ثروت ان کی عقلمندی چالاکی اور ان ہی کی کوششوں کا تیجہ
ہے۔ اور کہیں وہ ان نعمتوں کو کھو بیٹھتے ہیں تو پکارا ٹھہتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو گیا
اور سارے عالم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جیسے سب ایکے دشمن

ہو گئے ہوں۔

نفسِ لواحہ خضوع و خشوع اور صبر سے کام لیتا ہے

نفسِ لواحہ کی حالت بالکل مختلف ہے وہ خضوع و خشوع سے کام لیتا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور کوئی نعمت مل جائے تو شکر بجالاتا ہے کہ یہ مولا کا کرم ہے حالانکہ وہ اس کا سچن بھی نہ تھا۔

آلام و مصائب کے وقت نفسِ لواحہ بڑے صبر و تحمل کا ثبوت دیتا ہے اور قضا و قدر کے نیصلوں پر اعتراض یا اظہار ناراضی نہیں کرنا کہ ہر کام میں قدرت و مشیت الہی کا داخل ہے۔

لیکن یہ باتیں کتنیوں سے یاد رکھا اور مکتب میں سیکھنے کی ہیں میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عام آدمی کو جوان پڑھ ہو اپنی عنایت و رحمت سے اس درج پر فائز کر دے اور ایک عالم یا پڑھنے لکھنے آدمی کی قسمت میں نہ ہو اور وہ اس رتبے سے محروم رہ جائے۔

مستظرف میں ایک حکایت میری نظر سے گوری جس کو ہمہاں بیان کرتا ہوں۔

ایک صحرائشین بڑھیا کا پس بینی کی وفات پر صبر و تحمل کا مظاہرہ

حج بیت اللہ پر جانے والے ایک قافلہ کی یہ حکایت بڑی صبر حاکم ہے۔ چھٹے نماں میں جہاز کا سفر خاصہ دشوار گراہ ہوا کرے تھا۔ لوگ چلپاتی دھوپ میں اونٹوں کی ہیئت پر سفر کرنے پر بھوپتھ۔ قافلہ کا ایک شخص بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اخنانے راہ میں ایک یمن و بیکھا جس میں ایک بڑھیا تن تھا۔ بینی ہوئی تھی۔ قافلہ والوں نے اس سے کچھ کھانے کے لئے مالک اس نے کہا

کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں۔ میرے اونٹ اور بکریوں کو میرا لڑکا اور میرا نوکر چرانے اور پانی پلانے کے لئے لے گئے ہیں۔ جو نہیں وہ لوث کر آئیں گے میں آپ لوگوں کی خاطر تواضع کر سکوں گی۔

حاجوں کے قافلہ کیلئے خسر میں فرش پتھکا کے وہ باہر نکلی تو دور سے اونٹوں کا لگہ اور بکریوں کا ریوڑ آتا دکھائی دیا لیکن دیکھا کہ ایس شتریان آدوبکا کر رہا ہے۔ بڑھیا نے اس کے قریب جا کر دریافت کیا کہ کیا ماہر ہے۔ شتریان نے رو رو کر اس سے بیان کیا کہ ہم لوگ اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے وہاں اور بھی اونٹوں کا ملکھٹھا ہو گیا تھا۔ وہ سب پانی پر نوت پڑ رہے تھے۔ ان کی ریل پیل میں آپ کا بچہ ناگہانی کنوئیں کے اندر گر پڑا۔ اس زمانہ کے کوئی بھی بڑے گھرے ہوا کرتے تھے اور ایک دفعہ کوئی ان میں گرجانے تو باہر آتا ممکن نہ تھا۔ بڑھیا نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ المناک داسان سی اور بڑے اطمینان کے ساتھ نوکر سے کہا کہ میرے پاس کچھ مہمان آتے ہوئے ہیں وہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں تم جلدی سے ایک بکری ذبح کر کے ان کے لئے پیش کر دو۔

قافلہ میں سے ایک شخص کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے بڑھیا سے کہا کہ ہمیں سخت افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ستانجہ پیش آیا ہے آپ اب ہماری مہمان نوازی کا خیال چھوڑ دیں۔ اس حورت نے جوی ہمت سے یہ جواب دیا کہ مجھے تو اس ساتھ کا کوئی ملاں نہ تھا آپ لوگوں نے اس طرف توجہ دلائی اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں حالانکہ اگر سوچو تو میرا کام صبر کرنا ہے جیکی قرآن مجید میں تلقین کی گئی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے تو مہربانی کر کے مجھے اس کا کچھ حصہ سنائیں۔ قافلہ کے ایک شخص نے قرآن مجید کے اس حصہ کی تلاوت شروع کر دی جس میں مصائب و آلام کے وقت

صبر کی تلقین کی گئی ہے اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مژده سنایا گیا
ہے کہ وہی لوگ ہدایت یافتے ہیں۔

وَلِنَبْلُوَّتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالثُّرَّاتِ وَبَيْشِرُ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ
مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُ
رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَنَّدُونَ ۝

(سورہ البقرۃ آیات ۱۵۵-۱۵۶)

اس بڑھی خاتون نے اس قدر سننے کے بعد کہا کہ بس اتنا کافی ہے اسکے
کہ صبر کی تلقین کی گئی ہے اسی پر میں عمل پیرا ہوں۔ خدا اس کا احر ضرور
دے گا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے انٹی اور دسوچر کے اس نے دور کوت شزار ادا کی۔
شزار سے فارغ ہو کر اس نے دونوں ہاتھ اور اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی
کہ خداوند اگر تیری مر جنی ہوتی کہ اس عالم فانی میں کسی کو حیات ابدی سے
نوازا جائے تو اسکے سب سے زیادہ سزاوار تیرے اپنیا اور مرسلین ہوتے۔
اے پروردگار تو نے قرآن حکیم میں ہمیں صبر کا حکم دیا ہے میں ایک ضعیف اور
ناتوان حورت ہوں لیکن تیرے حکم کی تعمیل میں صبر کرتی ہوں۔ اے رب
العزت صبر کرنے والوں کیلئے تو نے جس احر کا وعدہ فرمایا ہے مجھے اس سے
محروم نہ فرم۔

دعا کے بعد وہ انٹ کھڑی ہوئی اور ہمانوں کی غاطر تواضع میں اس طرح
ہنگ ہو گئی جیسے کوئی المناک سانحہ واقع ہی نہ ہوا تھا۔

نفس امارہ کی بے صبری

اگر وہ بوصیا نفس امارہ کی حامل ہوتی تو قضا و قدر کے فیصلہ پر یقیناً

یحال ہو جاتی اور غم و غصہ کے عالم میں آہ و زاری کرنے لگتی کیونکہ نفس امارہ
معمولی معمولی مصیبت کو بھی ناقابل برداشت خیال کرتا ہے لیکن جسیں افتاد
اس بوصیا پر آن پڑی تھی اس نے خدا کی طرف سے خیال کر کے سر تسلیم خم کر
دیا۔

پس ہمیں چلپتے کہ نفس امارہ کی حقیقت سے خوب واقف ہو جائیں
ایسا ہو کہ عمر بھر ہم ہی کجھتے رہیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہے در آنحاکیکہ نفس
امارہ کی گرفت سے نہ نکل سکے۔ اسلئے ہماری بھلائی اور فلاح اس میں ہے کہ
اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں۔

المبَرَّةُ نَفْسُ لَوَامِهِ سَرَّكُشِیٌّ پَرِّ نَهْنِیں اَكْسَانَگَاهَ سَرَزَدَ ہو جائے تب بھی وہ
اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔

نفس مطمئنہ کسی حال میں بھی اپنی عبودیت اور بندگی کے مقام
کو فراموش نہیں کرتا

نفس کا تیرسا اور آخری درج جو بہت ہی شاذ و کسیاب ہے وہ نفس
مطمئنہ کا ہے وہی طور پر خانہ خدا کے گدا کی حیثیت سے زندگی گزارتا ہے نہ کہ
کسی اور کے آگے باقہ پھیلاتا ہے اس کا یہ مطلب ہمیں کہ دن کے ۲۳ گھنٹے
مسجدی میں بسرا کیئے رہتا ہو بلکہ اس کا دل اپنے رب سے بغاوت اور سرتباہی کی
طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ نیز اسکے ایمان میں نہ تولزل ہوتا ہے اور نہ
تنبذب کہ بھی تو خدا پر ایمان ہو اور بھی اپنے نفس کا بندہ بن جائے۔ اے ہر
حال میں اپنی عبودیت اور بندگی کے مقام کا اسے احساس ہوتا ہے اگر اللہ
تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازے تب بھی وہ اپنے آپ کو بندہ ہی خیال کرتا
ہے اور دولت اسکے ہاتھوں سے چون جائے تب بھی وہ اسی کا بندہ رہتا ہے خواہ

شہوت اور نفاذی خواہشات کا کتحابی غلبہ ہوتا ہے اور اگر گناہ کی طرف اس کا میلان بھی ہوتا ہے تو بیخاوت پر آمادہ ہوتا ہے اور نہ اس سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے۔
ایسا شخص ان لوگوں میں شامل ہو گا جنہیں قرآن میں "سابقون" کا نام دیا گیا ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أَوْلَىٰنِكَ الْمُقْرِبُونَ

(سورہ الواقد آیت ۱۰، ۱۱)

وہ نہ تو اصحاب الشال میں سے ہو گا جن میں نفس امارہ کے لوگ شامل ہوئے اور نہ بی اسے اصحاب یعنی میں شامل کیا جائے گا جو نفس لواسہ کے حامل لوگوں کا گردہ ہو گا جو نفس مطہرہ کے حامل تو وہ لوگ ہوئے جنہیں قرآن میں ۔۰ اول الاباب - کہہ کر پکارا گیا ہے کہ وہ کھڑے یہٹے اور لیٹے ہر حالت میں یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے اور آسانوں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں خود فکر کرتے رہتے ہیں۔

**الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ه**

(سورہ ال عمران آیت ۱۹۱)

لپنے زیر پرورش یا محدث لوگوں پر برتری جتنا

نفس مطہرہ کا حامل لپنے آپ کو ہر حال میں بندہ ہی خیال کرتا ہے۔
لپنے بال بچوں کے لئے بھی روزی ہمیا کرتا ہے تو ان پر کوئی احسان نہیں
وہ مرما اور خود کو ان کا روزی رسان نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ
نظام اور اسی مسبب الاباب کا ذریعہ خیال کرتا ہے کیونکہ اہل دعیاں کے لئے

روزی کمانے سے خود اسکے اینے رنگ کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔

آسمش اور عصیش و عشرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بیخاوت پر آمادہ نہیں ہوتا اور تکلیف و مصیبت کے وقت قضاۓ الہی پر خلگی و نارا خلگی کا ظہر نہیں کرتا بلکہ اس مصیبت میں بھی اپنی عبودیت اور بندگی کو فراموش نہیں کرتا۔

لپنے فرانص دینی کے ادا کرنے اور باخصوص اوقات نماز میں اول وقت نماز ادا کرتا ہے۔ اور ادا مرابیہ کی پابندی اور نواہی سے اجتناب پر خلقتی سے عمل کرتا ہے اور حرام کاموں سے بارہت ہے۔ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ خیر و شرب مشیت الہی کے نایاب ہیں پھر تکلیف و راحت پر مستقید کیا اختیار ہے۔

شہنشاہ حبیثہ مجاشی کا خضنوں و خشور

حباب جعفر طیاز بھی ان مہاجرین میں شامل تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسا پر عبشد کی طرف مجرمت کی تھی ہاک کفار و مشرکین کے ظلم و ستم سے نجات مل سکے۔

انہوں نے مجاشی کو دیباکر وہ پھٹے پرانے کمودوں میں ملبوس زمین کے فرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت جعفر اور ان کے ساتھی بھی اسکے قریب جا کر بیٹھ گئے اور خیریت دریافت کرنے کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ آج تو آپ کی وضع قفع ہی نہالی ہے۔ حخت شامی کو چھوڑ کر آپ فرش خاک پر بیٹھے ہوئے، میں۔ کیا کوئی حادثہ پیش آگیا ہے؟

شہنشاہ مجاشی نے بولے اطمینان سے جواب دیا کہ۔ ہمیں حضرت مسیح کے بارے میں یہ روایت پہنچی ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نئی نعمت

سے نوازے تو اور زیادہ عجروالنسار سے کام لو اور وہ نعمت جسکی بشارت حضرت مسیح نے دی تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحث کے بارے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں مشرکین و کفار پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس نعمت سے سرفراز ہونے پر چاہتا ہوں کہ اسکی بارگاہ میں عجروالنسار کے ساتھ شکر ادا کروں۔

نفس مطمئنہ کے حامل جو کچھ مانگتے ہیں خدا ہی سے مانگتے ہیں

نفس مطمئنہ کے حامل افراد خوش حالی اور عیش و عشرت کے زمانہ میں بھی احکام خداوندی سے سرتباً کا خیال دل میں ہنسی لاتے وہ بعض جاہل لوگوں کی طرح نہ تو اپنے آپ کو اس کا مستحق گردانے ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ میری نیت صاف تھی۔ میں خود نیک ہوں۔ میرا باطن پاک ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور اپنی نعمتوں سے نوازے ہے۔ چونکہ میرے کام پسندیدہ تھے اس لئے خدا نے بھی اس کا اجر دیا ہے۔ اسکے بر عکس جس کا نفس مطمئن ہو وہ آلام و مصائب میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بلکہ اس کے خشوع و خضوع میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو بندہ ہی خیال کرتا ہے۔

دلی مسرت اور روحانی بحث

غرضیک نفس مطمئنہ اپنے مقام عبودت پر خوش رہتا ہے نیز دن کے چوبیں گھنٹوں میں بھی بھی بندگی کے راستے بال بھرا خراف ہمیں کرتا۔ چاہے احکام شرعی ہوں یا مکونی امور ان سب کو اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں میں شامل

کرتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، راحت ہو کہ تکفیف ایک حال پر قائم رہتا ہے۔ جب نفس مطمئن ہو جائے تو گویا وہ خدا سے راضی ہو گی اور حق یہ ہے کہ بھی روحانی بحث ہے کیونکہ اس کا دل مسرت سے مالا مال ہوتا ہے۔ مصیبتوں میں بھی اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور نفس امارہ کو غلبہ پانے ہمیں دستا اور مرضا خداوندی کے آگے چون پھر اسے کام ہنسی لیتا۔ نفس امارہ کی گرفت ذہلی پڑ جاتی ہے جسکی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چیزیں وچhan اور چون وچra کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یعنی ہربات جو اسکی مرضا کے خلاف ہو وہ اس پر دل گرفتہ ہوتا ہے اور حزن و ملاں کا انطباق کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اتنی گری کیوں ہے۔ بارش کیوں ہنسی ہوئی یا بارش کیوں ہوئی؟ یہ ساری باتیں نفس امارہ ہی سمجھاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ کی سب سے بڑی سعادت رضاۓ الہی اور خوشبودی خداوندی کا حصول ہے چنانچہ وہ جس حال میں بھی رکھے اس پر راضی رہتا ہے۔

نفس مطمئن ہو تو ملک الموت بھی روح قبیل کرتے وقت بھی آیہ شریفہ پڑھتا ہے

جب وہ خدا سے راضی ہو تو خدا بھی اس سے راضی رہتا ہے اور اسکے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں اسکا شمار ہوتا ہے۔ اور موت کے وقت بھی آیہ شریفہ کا نوں میں پوتی ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادقؑ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں یہ جب ملک الموت کسی مومن (مومن یعنی جو نفس مطمئنہ کا حامل اور راضی برضا ہو) کی روح قبیل کرنے آتا ہے تو اسکی بہت بندھاتا ہے تاک اسکی موت کی دھنست دور ہو۔ پھر وہ اس طرح مناسب ہوتا ہے کہ میں تجھ پر

تیرے باپ کی خاطر مہربانی کر رہا ہوں۔ پریشان نہ ہو ذرا اپنی نظریں تو اور پر اٹھا اور سر کے اوپر دیکھ (ظاہری آنکھوں سے ہنس بلکہ مکونی اور بڑھنی آنکھوں سے یا اس طرح دیکھ جس طرح خواب میں دیکھا کر تاہے) حالانکہ خواب میں مادی آنکھوں سے دیکھے بغیر بھی ہر ایک سے کہتا ہے کہ میں نے خلاں خواب دیکھا) غرمنگ سو من جب اوپر کی طرف لگاہ کرتا ہے تو اسے اہل سیتے اٹھاڑ کے پاک اور پرانا رہ ہجھے دکھائی دیتے ہیں۔ ان پر لگاہ پڑتے ہی اسکے کانوں میں یہ صدا گونجتی ہے (جب وہ پورے ہوش و حواس سے سنتا ہے کیونکہ ابھی اس کی روح پر دواز ہنس کرتی)

**يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْعَنَةُ إِذْ جِئْتِ إِلَى رَبِّكِ
رَاضِيَةٌ مَرْضِيَةٌ**

ہمارے خاص بندوں میں داخل ہو جا

اس سے کہا جاتا ہے کہ اے نفس مسلمین رب العالمین کا خوان نعمت تیرے لئے پنجاہ دیا گیا ہے۔ اے ہمارے ثابت قدم بندے تو نے حسین کی طرح عبداللہ بن کرزندگی گواری ہے پس ہمارے عباد میں شامل ہو جا۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جو نفوس مطمئنہ کے حامل ہیں پس اپنے جن آقاوں کو تو پہنچ سر حانے دیکھ رہا ہے سرے دہ بندے ہیں جو رضاویں سلیمان کے پیکر ہیں پس اب یہ ثابت ہو گیا کہ اس آئی شریفہ کے اصل مصدق حسین ہی ہیں۔ یہاں بہت کی باتیں اشاروں میں بتا دی گئی ہیں جو بیان ہنسیں کی جا سکیں۔ چنانچہ یہ بھی روایت ہے کہ مومن کی روح اس بات کی آرزد مدد رہتی ہے کہ اے جلدے جلد اپنے بھجوں کا دیدار اور وصال میر آجائے۔

مومن کی موت بھی خوشی خوشی واقع ہوتی ہے

امام جعفر صادقؑ کی اسی روایت کی ابھرایوں ہوتی ہے کہ ایک شخص نے امام موصوف سے دریافت کیا کہ آیا مومن تکلیف سے مرتا ہے یا مرتے وقت خوش رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا مومن کی موت بھی خوشی کے عالم میں واقع ہوتی ہے اور اسکی مزید تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:-
چونکہ رنج و الم کے بغیر راحت کا تصور ہنسیں ہو سکتا اسلئے مومن کو ہمیشہ اس بات کے لئے کوشش رہنا چاہیے کہ عباد اللہ میں اسکا شمار ہو تاکہ اللہ کے نیک بندوں کو ملنے والی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکے۔

عِينَانَ يَسِرٌ بِعِيَادَ اللَّهِ يُفْجِرُ وَنَهَانَ تَفْجِيرًا

(سورہ الدھر آیت ۶)

جتنے کے جھنوں اور حوض کوثر کے تواصل بیت ہنجن ہی وارث ہو گے اور ان سے سر اب ہونے والے صرف ابرار اور نیکوکار بندے ہو گے۔
اہل بیت تو مطلقاً عباد اللہ ہیں اور سورہ وحر میں جن ابرار و نیکوکار بندوں کا ذکر آیا ہے وہ شیعوں ہی کے ابرار و نیکوکاروں کا ہے۔
لوگوں پر مسلسل قائم رہنے والے نفس مطمئنہ کا حصول آسان ہو جاتا ہے

پس اے مومن آؤ کہ نفس امادہ سے چنکارا پانے کے لئے مسلسل جدو، جدو اور سچی کریں اس طرح اگر نفس مطمئنہ تھک نہ ہجھنگی کسیں تو کم از کم نفس لو اس سمجھ رسانی ہو جائے۔ چلپتے کہ سحر خیزی کو اپنی عادت بنا لیں اللہ

تعالیٰ سے غفوہ درگزد کے خواستگار ہوں اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں خدا کے حضور نہ است کا اٹھاد کریں۔ یہ کیفیت نفس لادہ کی ہوگی اور اس پر مسلسل قائم ہنسنے سے اصلاح حال کی امید ہو سکتی ہے۔ جو بالآخر نفس مطمئن ہی میں ضمیر ہے۔ اس دار قانی اور عاقبت کی ہر خوشی اور کامیابی کا راز رحماء تسلیم کے مقام تک رسائی حاصل کرنے میں پہنچا ہے۔

حقیقی معنوں میں توبہ واستغفار ہی ذریعہ نجات ہے

کہو۔

"أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ وَاتُّوبُ إِلَيْهِ"

آؤ کہ اپنی بھلی توبہ کو بھی درست کر لیں کیونکہ یہ کہنا کہ میں نے تورات کچھ توبہ کر لی تھی فائدہ مند ہوگا۔ اگر تم نے توبہ کو بھلا دیا تو گناہ سے کسر طرح فتح سکو گے۔ توبہ کا ثرثویہ ہونا پڑتا ہے کہ پھر تم سے گناہ سرزد ہی نہ ہو۔ حقیقی توبہ وہی ہے جو تمہارے ترکیبے نفس کے کام آئے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے امام زین العابدین ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اسے خداوند انجیے اپنی توبہ پر قائم ہنسنے کی توفیق عطا فرمائ کہ میرا نفس پاک ہو جائے اور تیری نجوبیت کے مقام کا، اہل بن جاؤں۔

توبہ کے سلسلہ میں ایک اور نکتہ ذہن نشین کرلو۔ مومن کو چلہنے کے خوف و رجا اور امید و ہم کے عالم میں اپنا وقت گزارے۔ توبہ کرے تو اپنی توبہ پر خوش نہ ہو اور مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے۔ چلہنے کے ایک گناہ پر بھی ساری عمر تجھات اور پیشمنی کا اٹھاد کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا

امیدوار رہے۔ ابدا ہر وقت تو پہ کرتا رہے اور مطمئن ہو کر یہ نہ بخوئے کہ گناہ معاف ہو گئے کیونکہ یہ تو غور اور تکمیر کی علامت ہے۔ خدا چاہے تو معاف کرے اور نہ چاہے تو سزا دے بندہ کا کام تو مغفرت کا طالب ہونا ہے۔ ہم بہاں صحیفہ سجادیہ میں منتقل دعائے تو پہ نقل کر رہے ہیں جو امام زین العابدین کا شخصی وظیفہ تھا۔

**أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُبَيْرٍ دُنْوَبِيِّ وَصَفَائِرِهَا وَحَوَادِيثِ
رُلَاتِيِّ وَسَوَابِقِكَ أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا حَالَفَ
إِذَا دَتَكَ أَوْ إِذَا أَرَأَ مَحْبَتَكَ مِنْ أَحْكَامِ
وَحَظَرَاتِ قُسْنِيِّ وَحِكَمَيَاتِ لِسَنِيِّ وَحِرَكَاتِ**

بَخْوارِ حَمْيَ

توبہ واستغفار کے وقت چلہنے کے اپنے گناہوں اور خطاووں کو یاد کرے اپنے آپ پر ملامت کرے۔ اور خور کرے کہ تو نے اللہ کی ولی یعنی نعمتوں میں کس کس نعمت کا شکر ادا کیا ہے کیونکہ نہ لوت تو کفر ان نعمت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور اسکا شکر ادا کرنے سے بارہتے ہیں۔